



یکم جولائی تا 31 دسمبر 2023

بینک چارجز
کا شیڈول

faysalbank



شریعہ تصدیق نامہ

فیصل بینک لمیٹڈ، اسلامک بینکنگ کے یکم جولائی 2023 سے 31 دسمبر 2023 کے شیڈول آف چارجز (SOC) کا جائزہ لیا گیا ہے جو شرعی قوانین کے مطابق ہیں۔

اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔



مفتی محب الحق صدیقی
چیرمین شریعہ بورڈ



مفتی محمد عبداللہ
ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر

مندرجات

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
تجارتی خدمات		
۱	امپورٹ	۴
۲	ایکسپورٹ	۱۲
۳	ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ	۱۳
۴	گارنٹیز (حتماتیں)	۱۸
۵	متفرقات	۱۸
جزل بینکنگ		
۱	ڈرافٹ اور چیک کا ڈپازٹ	۱۹
۲	ڈیمانڈ ڈرافٹ (LCY&FCY) اور پے آرڈر کا اجراء اور منسوخی	۱۹
۳	رقم کی ترسیل اور چیک کی وصولی (LCY&FCY)	۲۰
۴	کلیرنگ (آؤٹ ورڈ)	۲۱
۵	چیک ریٹرن کے چارجز	۲۱
۶	چیکس / چیک بکس	۲۱
۷	اسٹینڈنگ ہدایات پر فیس	۲۱
۸	فیصل اسلامک بینک بینکنگ اکاؤنٹ	۲۲
۹	فیصل اسلامک بینکنگ اکاؤنٹس کے کم از کم ماہانہ مطلوبہ اوسط بیلنس	۲۲
۱۰	فیصل اسلامک بینکنگ اکاؤنٹس کے منافع کی ادائیگی کا دورانیہ	۲۳
۱۱	منافع کی ادائیگی کے لئے کم سے کم اوسط بیلنس	۲۴
۱۲	سیف ڈپازٹ میں سامان کی فیس	۲۵
۱۳	سیف ڈپازٹ لا کرز	۲۵
۱۴	متفرقات	۲۶
۱۵	فیصل اسلامک برکت انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ (بی آئی سی)	۲۷
۱۶	فیصل اسلامک برکت انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ کی قبل از وقت انکیشمنٹ (ملکی کرنسی یا غیر ملکی کرنسی)	۲۹
۱۷	قبل از وقت انکیشمنٹ کی مثالیں	۳۰
۱۸	کمپو نیکشن ٹیرف (صارف سے رابطہ کے چارجز)	۳۲
۱۹	فیصل اسلامک رحمت بزنس اکاؤنٹ	۳۴
۲۰	فیصل اسلامک رحمت انفرادی اکاؤنٹ	۳۵
۲۱	روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ	۳۵
۲۲	ڈیجیٹل اکاؤنٹس	۳۸
کیش مینجمنٹ کی خدمات		
۱	الیکٹرونک چینلز	۳۹

مندرجات

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
ڈیجیٹل بینکنگ کی خدمات		
۱	اے ٹی ایم	۴۰
۲	ڈیجیٹل کیوسک (نقدی قبولیت)	۴۱
۳	انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ	۴۱
۴	SMS الارٹ	۴۱
۵	ای ایس ایم ٹی	۴۱
۶	ورچوئل کارڈ	۴۲
۷	پری پید کارڈ	۴۲
۸	فیصل اسلامک واٹس ایپ بینکنگ	۴۲
۹	کونٹیکٹ سینٹر	۴۳
صارف فنانسنگ پروڈکٹ		
۱	ڈیبٹ کارڈز	۴۴
۲	بے پاک کارڈ	۴۵
۳	فیصل اسلامک پرسنل فنانس	۴۵
۴	فیصل سولر سلوشنز	۴۵
۵	فیصل ہوم فنانس	۴۶
۶	فیصل کار فنانسنگ	۴۷
۷	قانونی چارجز (آٹو اور ہوم فنانس)	۴۸
۸	FIO 2001 کے تحت بینکنگ کورٹ سے وصولی کے مقدمہ کے چارجز	۴۸
۹	فیصل تکمیل	۴۸
۱۰	فیصل تعبیر	۴۹
۱۱	نور کارڈ	۴۹
فنانسنگ		
۱	انویسٹمنٹ پرنسپل / ریٹرن کے علاوہ قابل وصولی چارجز	۵۳
۲	IPS اکاؤنٹ پر کسٹومائزڈ (حفاظتی تحویل) اور ٹرانزیکشن سروس چارجز	۵۳
۳	فلیٹ (Fleet) فنانس	۵۴
۴	CBSME فنانسنگ	۵۴
۵	زرعی فنانسنگ	۵۴
فیصل اسلامک پریوریٹی بینکنگ		
۱	بینکاری سہولیات	۵۵
۲	فیصل اسلامک آٹو فنانسنگ	۵۵
۳	فیصل اسلامک پلانٹینم بائزر کارڈ ڈیبٹ کارڈ	۵۵
۴	فیصل اسلامک ہوم فنانسنگ	۵۵
۵	لاکریز	۵۶
۶	ممبر شپ فیس چارجز	۵۶
متفرقات		
۱	جنرل (General)	۵۷

نوٹ: اس شیڈول آف چارجز کا اصل مسودہ انگریزی زبان میں تیار کیا گیا ہے۔ انگریزی اور / اردو متن کے مسودے کے درمیان کسی اختلاف کی صورت میں اور / یا کسی بھی ترجمہ کی صورت میں انگریزی مسودہ غالب ہوگا

تجارتی اور کاروباری خدمات

1. ایمپورٹ -- i

A. لیٹر آف کریڈٹ

اگلی سہ ماہی یا اسکے کچھ حصے کے لئے	پہلی سہ ماہی یا اسکے کچھ حصے کے لئے	رقم کی حد (روپوں میں)	ابتدائی حد
		انتہائی حد	Amount upto
2,300	2,300	500,000	500,001
2,300	3,900	800,000	800,001
3,060	5,400	1,000,000	1,000,001
4,250	7,500	1,500,000	1,500,001
5,950	10,500	2,000,000	2,000,001
7,650	13,500	2,500,000	2,500,001
9,350	16,500	3,000,000	3,000,001
11,050	19,500	3,500,000	3,500,001
12,750	22,500	4,000,000	4,000,001
14,450	25,500	4,500,000	4,500,001
16,150	28,500	5,000,000	5,000,001
17,850	31,500	5,500,000	5,500,001
19,550	34,500	6,000,000	6,000,001
21,250	37,500	6,500,000	6,500,001
22,950	40,500	7,000,000	7,000,001
24,650	43,500	7,500,000	7,500,001
26,350	46,500	8,000,000	8,000,001
28,050	49,500	8,500,000	8,500,001
29,750	52,500	9,000,000	9,000,001
31,450	55,500	9,500,000	9,500,001
33,150	58,500	9,999,999	9,999,999
33,750	54,000	12,500,000	12,500,001
41,250	66,000	15,000,000	15,000,001
48,750	78,000	17,500,000	17,500,001
56,250	90,000	20,000,000	20,000,001
63,750	102,000	22,500,000	22,500,001
71,250	114,000	25,000,000	25,000,001
78,750	126,000	27,500,000	27,500,001
86,250	138,000	30,000,000	30,000,001

تجارتی اور کاروباری خدمات

93,750	150,000	32,500,000	30,000,001
101,250	162,000	34,999,999	32,500,001
101,500	145,000	37,500,000	35,000,000
108,500	155,000	40,000,000	37,500,001
115,500	165,000	42,500,000	40,000,001
122,500	175,000	45,000,000	42,500,001
129,500	185,000	47,500,000	45,000,001
136,500	195,000	50,000,000	47,500,001
143,500	205,000	52,500,000	50,000,001
150,500	215,000	55,000,000	52,500,001
157,500	225,000	57,500,000	55,000,001
164,500	235,000	60,000,000	57,500,001
171,500	245,000	62,500,000	60,000,001
178,500	255,000	65,000,000	62,500,001
185,500	265,000	67,500,000	65,000,001
192,500	275,000	70,000,000	67,500,001
199,500	285,000	72,500,000	70,000,001
206,500	295,000	75,000,000	72,500,001
213,500	305,000	77,500,000	75,000,001
220,500	315,000	80,000,000	77,500,001
227,500	325,000	82,500,000	80,000,001
234,500	335,000	85,000,000	82,500,001
241,500	345,000	87,500,000	85,000,001
248,500	355,000	90,000,000	87,500,001
255,500	365,000	92,500,000	90,000,001
262,500	375,000	95,000,000	92,500,001
269,500	385,000	97,500,000	95,000,001
276,500	395,000	99,999,999	97,500,001
232,875	283,500	102,500,000	100,000,001
238,625	290,500	105,000,000	102,500,001
244,375	297,500	107,500,000	105,000,001
250,125	304,500	110,000,000	107,500,001
255,875	311,500	112,500,000	110,000,001

تجارتی اور کاروباری خدمات

261,625	318,500	115,000,000	112,500,001
267,375	325,500	117,500,000	115,000,001
273,125	332,500	120,000,000	117,500,001
278,875	339,500	122,500,000	120,000,001
284,625	346,500	125,000,000	122,500,001
290,375	353,500	127,500,000	125,000,001
296,125	360,500	130,000,000	127,500,001
301,875	367,500	132,500,000	130,000,001
307,625	374,500	135,000,000	132,500,001
313,375	381,500	137,500,000	135,000,001
319,125	388,500	140,000,000	137,500,001
324,875	395,500	142,500,000	140,000,001
330,625	402,500	145,000,000	142,500,001
336,375	409,500	147,500,000	145,000,001
342,125	416,500	150,000,000	147,500,001

- i۔ تمام L/C رقوم جو کہ مبلغ ۱۵۰ ملین روپے سے متجاوز ہو جائیگی تو فی ملین = 5000 روپے (پہلی سہ ماہی میں) ہر ملین پر (یا اسکے کچھ حصے پر) اور (اگلی سہ ماہی میں) مبلغ = 2500 روپے اضافی سروس چارج کی مدت میں وصول کئے جائیں گے۔
- ii۔ مذکورہ بالا سروس چارج میں انتظامیہ کی منظوری کی شرط پر رعایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔
- iii۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالیاتی معاہدے یا گارنٹی کے اجراء کے مقابل فیس / کمیشن چارج کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ معاہدے اپنی نوعیت کے اعتبار سے عموماً غیر معاوضہ یا ناقابل معاوضہ ہیں۔
- تاہم اضافی متعلقہ خدمات، مثلاً دستاویزات سازی، کریڈٹ کی تخمینہ کاری، مراسلتی اکاؤنٹ کی مینٹیننس، نگرانی وغیرہ کے لئے سروس چارج کرنے کی اجازت ہے۔

a.	ترمیم	ہر ترمیم پر مبلغ = 1300 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) یا مندرجہ بالا آئٹم (A) slabs کے مطابق سروس چارج وصول کیا جائیگا جبکہ یہ ترمیم رقم میں اضافہ یا L/C کے فعال رہنے کی مدت میں اضافہ پر مشتمل ہو۔
b.	L/C کی تصدیق (جبکہ اس L/C کو کھلوانے والے کے اکاؤنٹ سے ادا کی گئی ہو)	اصل خرچہ

تجارتی اور کاروباری خدمات

c.	L/C فراہم کنندہ / خریدار کو کریڈٹ پر دی گئی ہو اور L/C کی ادھار وصولی ایک سال کے دورانیہ میں ہو	جیسا کہ کسٹمر سے طے پایا ہو
d.	توثیق کرنے پر کمیشن	L/C کی میعاد ختم ہونے کے بعد دوبارہ فعال کرنے پر slabs کے مطابق سروس چارج وصول کیا جائیگا جیسا کہ مندرجہ بالا (A) میں نئی L/C کے ٹھکانے پر قابل اطلاق ہے
e.	L/C کی منسوخی	مبلغ = 1400 روپے (ہر رقم پر یکساں چارج)

1. اپورٹ -- ii

B. اپورٹ کے لئے کنٹریکٹ کی رجسٹریشن

سالانہ کنٹریکٹ کی تعداد	رقم کی حد (روپوں میں)	
	ابتدائی حد	انتہائی حد
2,350	500,000	اماؤنٹ اپ ٹو
2,350	800,000	500,001
3,060	1,000,000	800,001
4,250	1,500,000	1,000,001
5,950	2,000,000	1,500,001
7,650	2,500,000	2,000,001
9,350	3,000,000	2,500,001
11,050	3,500,000	3,000,001
12,750	4,000,000	3,500,001
14,450	4,500,000	4,000,001
16,150	5,000,000	4,500,001
17,850	5,500,000	5,000,001
19,550	6,000,000	5,500,001
21,250	6,500,000	6,000,001
22,950	7,000,000	6,500,001
24,650	7,500,000	7,000,001
26,350	8,000,000	7,500,001
28,050	8,500,000	8,000,001
29,750	9,000,000	8,500,001
31,450	9,500,000	9,000,001
33,150	10,000,000	9,500,001
38,250	12,500,000	10,000,001
46,750	15,000,000	12,500,001
55,250	17,500,000	15,000,001
63,750	20,000,000	17,500,001
72,250	22,500,000	20,000,001
80,750	25,000,000	22,500,001
76,125	27,500,000	25,000,001
83,375	30,000,000	27,500,001

تجارتی اور کاروباری خدمات

90,625	32,500,000	30,000,001
97,875	35,000,000	32,500,001
105,125	37,500,000	35,000,001
112,375	40,000,000	37,500,001
119,625	42,500,000	40,000,001
126,875	45,000,000	42,500,001
134,125	47,500,000	45,000,001
141,375	50,000,000	47,500,001
117,875	52,500,000	50,000,001
123,625	55,000,000	52,500,001
129,375	57,500,000	55,000,001
135,125	60,000,000	57,500,001
140,875	62,500,000	60,000,001
146,625	65,000,000	62,500,001
152,375	67,500,000	65,000,001
158,125	70,000,000	67,500,001
163,875	72,500,000	70,000,001
169,625	75,000,000	72,500,001
175,375	77,500,000	75,000,001
181,125	80,000,000	77,500,001
186,875	82,500,000	80,000,001
192,625	85,000,000	82,500,001
198,375	87,500,000	85,000,001
204,125	90,000,000	87,500,001
209,875	92,500,000	90,000,001
215,625	95,000,000	92,500,001
221,375	97,500,000	95,000,001
227,125	100,000,000	97,500,001

(i) تمام کنٹریکٹ کی رقم ۱۰۰ ملین سے متجاوز ہونے کی صورت میں ہر ملین (یا اس کے کسی حصہ پر) مبلغ / 5000 روپے اضافی سروس چارج کی مد میں وصول کئے جائینگے۔

(ii) مذکورہ بالا سروس چارجز میں انتظامیہ کی منظوری کی شرط پر رعایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایک سال کے معیار کی بحالی / ترمیم کے خاتمے کی صورت میں تازہ کنٹریکٹ رجسٹریشن چارجز لاگو ہوں گے۔

a.	ترمیم	روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) = / 1500 ہر ترمیم پر مبلغ کے مطابق سروس slabs (B) پامندر جہ بالا آئٹم چارجز وصول کیا جائیگا جبکہ یہ ترمیم رقم میں اضافہ / مدت میں اضافہ پر مشتمل ہو۔
----	-------	---

تجارتی اور کاروباری خدمات

1. ایپورٹ -- iii

C. بلز

L/C کی فعالیت کی م ی عاد سے زائد ہر مہینہ یا اُس کے کسی حصہ کے لئے	رقم کی حد (روپوں میں)	
	انتہائی حد	ابتدائی حد
1,750	800,000	500,001
1,800	1,000,000	800,001
2,500	1,500,000	1,000,001
3,500	2,000,000	1,500,001
4,500	2,500,000	2,000,001
5,500	3,000,000	2,500,001
6,500	3,500,000	3,000,001
7,500	4,000,000	3,500,001
8,500	4,500,000	4,000,001
9,500	5,000,000	4,500,001
10,500	5,500,000	5,000,001
11,500	6,000,000	5,500,001
12,500	6,500,000	6,000,001
13,500	7,000,000	6,500,001
14,500	7,500,000	7,000,001
15,500	8,000,000	7,500,001
16,500	8,500,000	8,000,001
17,500	9,000,000	8,500,001
18,500	9,500,000	9,000,001
19,500	10,000,000	9,500,001
22,500	12,500,000	10,000,001
27,500	15,000,000	12,500,001
32,500	17,500,000	15,000,001
37,500	20,000,000	17,500,001
42,500	22,500,000	20,000,001
47,500	25,000,000	22,500,001
52,500	27,500,000	25,000,001
57,500	30,000,000	27,500,001
62,500	32,500,000	30,000,001
67,500	35,000,000	32,500,001
72,500	37,500,000	35,000,001
77,500	40,000,000	37,500,001
82,500	42,500,000	40,000,001
87,500	45,000,000	42,500,001
92,500	47,500,000	45,000,001
97,500	50,000,000	47,500,001

تجارتی اور کاروباری خدمات

102,500	52,500,000	50,000,001
107,500	55,000,000	52,500,001
112,500	57,500,000	55,000,001
117,500	60,000,000	57,500,001
122,500	62,500,000	60,000,001
127,500	65,000,000	62,500,001
132,500	67,500,000	65,000,001
137,500	70,000,000	67,500,001
142,500	72,500,000	70,000,001
147,500	75,000,000	72,500,001
152,500	77,500,000	75,000,001
157,500	80,000,000	77,500,001
162,500	82,500,000	80,000,001
167,500	85,000,000	82,500,001
172,500	87,500,000	85,000,001
177,500	90,000,000	87,500,001
182,500	92,500,000	90,000,001
187,500	95,000,000	92,500,001
192,500	97,500,000	95,000,001
197,500	100,000,000	97,500,001

- (i) تمام L/C رقوم جو کہ مبلغ ۱۰ ملین روپے سے زائد ہو گئی تو مبلغ = 2000 روپے ہر ملین پر اضافی سروس چارجز کی مد میں وصول کئے جائیں گے (ماہانہ یا اسکے کسی حصہ پر کسی ایسی مدت کے لئے جو کہ L/C کی فعالیت سے زائد ہو)۔
- (ii) اگر بل کی میچورٹی L/C کی مدت کے اندر ہو یا بل سے ریٹائرمنٹ L/C کی مدت کے اندر واقع ہو تو اس کو قبول کرنے پر کوئی سروس چارجز / فیس لاگو نہیں ہو گا۔ اسکے بجائے اگر بل کی ادائیگی واجب الادا ہو یا اس سے دستبرداری L/C کی میعاد ختم ہونے کے بعد واقع ہو تو مندرجہ بالا سروس چارجز عائد ہو گا جو کہ L/C کی میعاد کے اختتام سے لیکر بل کی اصل ادائیگی ہو جانے تک وصول کیا جائیگا۔
- (iii) مندرجہ بالا ذکر کردہ سروس چارجز ان خدمات سے متعلق ہیں جو قبولیت کے وقت بینک نے انجام دی ہیں جیسا کہ نگرانی کاغذات کی جانچ پڑتال، سکیورٹی وغیرہ

تجارتی اور کاروباری خدمات

1. اپورٹ -- iv

a.	فراہم کنندہ کی C/L کی قبولیت کے سروس چارجز / فیس	فیصد ہر سہ ماہی پر (ہر رقم پر یکساں چارجز) یا 0.50 روپے۔ / 800 اسکے کسی حصہ پر۔ کم از کم مبلغ
b.	L/C / بینک کنٹریکٹ کے تحت دونوں صورتوں میں امپورٹ بلز کی ادائیگی پر سروس چارجز (a) ہمارے ذریعہ کھولی گئی ہو، جہاں فارن ایکس چینج تبدیلی / فاورڈ ریٹ (وعدہ کی بنیاد پر) ہمارے ذریعہ کیا گیا ہو۔ (b) ہمارے ذریعہ کھولی گئی ہو، جہاں فارن ایکس چینج تبدیلی / فاورڈ ریٹ (وعدہ کی بنیاد پر) کسی دوسرے بینک کے ذریعہ کیا گیا ہو۔	(a) 0.17 فیصد تک یا کم از کم مبلغ - / 1,400 روپے (b) مبلغ - / 2000 روپے ہر رقم پر یکساں چارجز
c.	فورسڈ ٹریڈ فنانسنگ پر منافع	30%
d.	اسپاٹ L/C مراجمہ پر نفع	مبلغ - / 100 روپے (کم از کم)
e.	یوزنس بل (Usance bills) کے تحت L/C / بینک کنٹریکٹ کی میعاد میں اضافہ	0.20 فیصد ماہ یا کم از کم - / 2,000 روپے بشمول قابل اطلاق سوئفٹ چارجز
f.	خرچ کی ہوئی رقم کی ادائیگی کے چارجز (ری امبر سمٹ بینک پر واجب الاداء)	اصل کے مطابق
g.	L/C کے تحت دیئے گئے امپورٹ بلز میں اعتراض لگانے کے چارجز	فی دستاویز USD - / 80 یا اسکے مساوی
h.	غیر ادا شدہ دستاویزات کی واپسی	روپے تک بشمول بینڈ لنگ، - / 1,200 ہر بل پر چارجز کو ریئر اور سوئفٹ
i.	دستاویزات جو کہ L/C کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد امپورٹ بلز کے عوض موصول ہوئی ہوں جبکہ شپنگ گارنٹی / AWB منظور ہو چکی ہو۔	کم از کم مبلغ - / 2,350 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
j.	وصولی اور امپورٹ بلز کی عدم ادائیگی	ماہانہ مبلغ - / 1,200 روپے چھ ماہ یا اس سے زائد کے لئے
k.	قبول شدہ بل آف ایکس چینج کو برقرار رکھنے کے لئے بینڈ لنگ اور سیف کسٹڈی کے چارجز	مبلغ - / 600 روپے ہر سہ ماہی میں ہر بل پر + بینڈ لنگ کے اصل چارجز کم از کم مبلغ - / 600 روپے
l.	ریکوری کے مطالبہ کا خرچہ / قانونی چارجز	صل خرچہ + / USD 16
m.	کریڈٹ رپورٹ کے چارجز (جہاں کریڈٹ رپورٹ، کریڈٹ کی درجہ بندی کرنے والی ایجنسی / غیر ملکی بینک سے حاصل کی گئی ہو)	جیسا کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی چارج کرے جو بینک سے منظور شدہ ہو جمع مبلغ - / 500 روپے
n.	L/C / امپورٹ کنٹریکٹ کے بغیر پیشگی ادائیگی، اوپن اکاؤنٹ ادائیگی	0.20 فیصد یا کم از کم مبلغ - / 1,700 روپے

تجارتی اور کاروباری خدمات

o.	امپورٹ کلیکشن دستاویزات کی بغیر ادائیگی، واپسی	USD 70/- (بشمول تمام بینڈلنگ، کوریئر، سوکفٹ، چارجز)
p.	اوپن اکاؤنٹ - EIF کی منظوری "فری آف کوسٹ" کی بنیاد پر	مبلغ -/500 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
q.	دیگر بینکوں کو EIF کی منتقلی	مبلغ -/500 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
r.	سبسڈی / کلیم کی بینڈلنگ	مبلغ -/2,350 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)

D. دیگر

a.	ڈیلیوری آرڈر کا اجراء یا اترے بلز کی منظوری جبکہ اصلی کاغذات موجود نہ ہوں	روپے -/1,800 مبلغ چارجز / (ہر رقم پر یکساں)
b.	ایف او بی کی بنیاد پر امپورٹ کے لئے فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء	منظور شدہ کریڈٹ کے مطابق

2. ایکسپورٹ

A. لیٹر آف کریڈٹ

(i)	ایڈوانسنگ (مشاورت)	مبلغ -/1,000 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(ii)	ترمیم / ایڈوانسنگ پر	مبلغ -/500 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(iii)	L/C کی تصدیق	جیسا بھی کسٹمر کے ساتھ طے ہو یا مبلغ -/1,850 روپے، جو بھی زیادہ ہو
(iv)	ایکسپورٹ L/Cs کی منتقلی	روپے بشمول قابل /1,000 ہر منتقلی پر مبلغ اطلاق سوکفٹ / کوریئر چارجز

B. لیٹر آف کریڈٹ (جو کہ بیرون ملک سے موصول ہو) جبکہ چارجز کھلوانے والے کے اکاؤنٹ پر ہوں

(i)	ایڈوانسنگ	US\$ 32/- (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(ii)	ترمیم	US\$ 22/- (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(iii)	تصدیق	US\$ 55/- جیسا بھی کسٹمر کے ساتھ طے ہو، کم از کم
(iv)	خط و کتابت کے چارجز، اگر کچھ ہوں تو وصول کئے جائینگے	اصل خرچہ
(v)	غیر استعمال شدہ ایکسپورٹ L/C ایڈوانسنگ	US\$ 35/- (ہر رقم پر یکساں چارجز)

C. بلز

(i)	اگر محدود L/C کے تحت کاغذات کسی دوسرے مقامی بینک کو مذاکرات کے لئے بھیجے گئے	مبلغ -/500 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) بشمول کوریئر چارجز
(ii)	ایکسپورٹ پروسیڈرز کی بشمول بینکنگ ادائیگی کے وصولی	ہر -/100 روپے پر 10 پیسے، کم از کم مبلغ -/200 روپے یا جیسا بھی کسٹمر کے ساتھ طے ہو
(iii)	کاغذات / ڈرافٹس کی ادائیگی کے بغیر واپسی	مبلغ -/500 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) بشمول کوریئر چارجز

تجارتی اور کاروباری خدمات

(iv)	غیر ملکی کرنسی کی وصولی (ایکسپورٹ ڈوکومنٹری کی وصولی)	کلین: مبلغ -/100 روپے، ہر رقم پر یکساں چارجز، ڈوکومنٹری لوکل: مبلغ -/300 روپے، ہر رقم پر یکساں چارجز
(v)	دوسرے بینک میں EEF کا ٹرانسفر یا NOC کا اجراء / کاغذات کی منتقلی	مبلغ -/500 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(vi)	L/C کے تحت دوسرے بینکوں کی ایکسپورٹ دستاویزات کی ہینڈلنگ	مبلغ -/US\$ 87 ہر رقم پر یکساں چارجز، ہر دستاویز کے سیٹ پر بشمول / سوئفٹ کوریئر چارجز
(vii)	ایکسپورٹ پروسیڈر کو دوسرے بینکوں کو منتقلی	مبلغ -/1,200 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) بشمول سوئفٹ چارجز
(viii)	ایکسپورٹ پروسیڈر کی دوسرے بینکوں کو منتقلی جہاں دوسرے بینک سے کوئی دستاویزی ہینڈلنگ نہ ہو	مبلغ -/1,750 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) بشمول سوئفٹ چارجز
(ix)	ڈیوٹی ڈرایبک درخواستوں کی ہینڈلنگ	0.30 فیصد فی کیس کم از کم مبلغ -/600 روپے فی درخواست
(x)	EDS چارجز	مبلغ -/80 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(xi)	سبسڈی / کلیم کی ہینڈلنگ	مبلغ -/200 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(xii)	سبسڈی / کلیم کی ہینڈلنگ	مبلغ -/1,200 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)

نوٹ: مذکورہ بالائے سروس چارجز میں انتظامیہ کی منظوری کی شرط پر رعایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

3. ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ -- i

رقم کی حد (روپوں میں)	پہلی سہ ماہی یا کچھ حصہ (روپوں میں)	اگلی سہ ماہی یا اسکا کچھ حصہ (روپوں میں)
ابتدائی حد	انتہائی حد	
200,001	500,000	1,500
500,001	800,000	2,600
800,001	1,000,000	3,600
1,000,001	1,500,000	5,000
1,500,001	2,000,000	7,000
2,000,001	2,500,000	9,000
2,500,001	3,000,000	11,000
3,000,001	3,500,000	13,000
3,500,001	4,000,000	15,000
4,000,001	4,500,000	17,000
4,500,001	5,000,000	19,000
5,000,001	5,500,000	21,000
5,500,001	6,000,000	23,000
6,000,001	6,500,000	25,000
6,500,001	7,000,000	27,000

تجارتی اور کاروباری خدمات

29,000	50,750	7,500,000	7,000,001
31,000	54,250	8,000,000	7,500,001
33,000	57,750	8,500,000	8,000,001
35,000	61,250	9,000,000	8,500,001
37,000	64,750	9,500,000	9,000,001
39,000	68,250	10,000,000	9,500,001
45,000	78,750	12,500,000	10,000,001
55,000	96,250	15,000,000	12,500,001
65,000	113,750	17,500,000	15,000,001
75,000	131,250	20,000,000	17,500,001
85,000	148,750	22,500,000	20,000,001
95,000	166,250	25,000,000	22,500,001
105,000	183,750	27,500,000	25,000,001
115,000	201,250	30,000,000	27,500,001
125,000	218,750	32,500,000	30,000,001
135,000	236,250	35,000,000	32,500,001
145,000	253,750	37,500,000	35,000,001
155,000	271,250	40,000,000	37,500,001
165,000	288,750	42,500,000	40,000,001
175,000	306,250	45,000,000	42,500,001
185,000	323,750	47,500,000	45,000,001
195,000	341,250	50,000,000	47,500,001
205,000	358,750	52,500,000	50,000,001
215,000	376,250	55,000,000	52,500,001
225,000	393,750	57,500,000	55,000,001
235,000	411,250	60,000,000	57,500,001
245,000	428,750	62,500,000	60,000,001
255,000	446,250	65,000,000	62,500,001
265,000	463,750	67,500,000	65,000,001
275,000	481,250	70,000,000	67,500,001
285,000	498,750	72,500,000	70,000,001
295,000	516,250	75,000,000	72,500,001
305,000	533,750	77,500,000	75,000,001
315,000	551,250	80,000,000	77,500,001
325,000	568,750	82,500,000	80,000,001
335,000	586,250	85,000,000	82,500,001
345,000	603,750	87,500,000	85,000,001
355,000	621,250	90,000,000	87,500,001
365,000	638,750	92,500,000	90,000,001
375,000	656,250	95,000,000	92,500,001
385,000	673,750	97,500,000	95,000,001
395,000	691,250	100,000,000	97,500,001

تجارتی اور کاروباری خدمات

- (i) تمام L/C کی رقم 100 ملین روپے سے متجاوز ہونے پر فی ملین مبلغ -/5,000 روپے اضافی سروس چارجز لاگو ہونگے (ہر سہائی یا اسکے کچھ حصہ پر)
- (ii) مذکورہ بالا سروس چارجز میں اشتظامیہ کی منظوری کی شرط پر رعایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔
- (iii) ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالیاتی معاہدے یا گارنٹی کے اجراء کے مقابل فیس / کمیشن چارج کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ معاہدے اپنی نوعیت کے اعتبار سے عقد وغیرہ معاوضہ یا ناقابل معاوضہ ہیں۔
- تاہم اضافی متعلقہ خدمات، مثلاً دستاویزات سازی، کریڈٹ کی تخمینہ کاری، مراسلتی اکاؤنٹ کی مینٹیننس، نگرانی وغیرہ کے لئے سروس چارج کرنے کی اجازت ہے۔

(i)	ترمیم	ہر ترمیم پر مبلغ = /1,100 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) یا مندرجہ بالا آئٹم (i) کے slabs کے مطابق سروس چارجز لاگو ہونگے، جب کہ یہ ترمیم رقم میں اضافہ یا شپ منٹ / فعالیت کی زیادتی پر مشتمل ہو۔
(ii)	L/Cs کے تحت بلز کی ریٹائرمنٹ پر سروس چارج	0.34 فیصد تک فی معاملہ یا کم از کم مبلغ -/1,200 روپے
(iii)	ان لینڈ L/Cs کے تحت غیر ادا شدہ دستاویزات کی واپسی	مبلغ -/1,750 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(iv)	وصولی (Collection) پر بھیجے گئے ان لینڈ بلز پر سروس چارجز	0.16 فیصد، کم از کم مبلغ -/1,750 روپے
(v)	ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ کے تحت اعتراض شدہ دستاویز	مبلغ -/2,350 روپے فی سیٹ

4. گارنٹری (ضمانتیں) -- i

a.	بل آف لینڈنگ کے بدلے شپنگ کمپنی کو گارنٹری کا اجراء	مبلغ = /1,500 روپے ہر رقم پر یکساں چارجز پہلے مہینے کے لئے اور = /600 روپے آئندہ ہر مہینے یا اسکے کسی حصہ کے لئے
b.	کلیکٹر آف کسٹمز کے حق میں گارنٹری کا اجراء	کیس ٹوکیس کی بنیاد پر، کم از کم مبلغ = /1,700 روپے۔ کسٹمز گارنٹی کی تجدید ہو سکے گی اور سہائی بنیادوں پر چارج کیا جاسکے گا جب تک کہ اصل دستاویزات موصول نہیں ہو جاتیں۔

تجارتی اور کاروباری خدمات

c.	دیگر گارنٹیز:
(i)	کسٹمر کی درخواست پر گارنٹی کا اجراء

سہ ماہی چار جز یا اسکے کسی حصے پر	گارنٹی کی رقم کی حد (روپوں میں)	
	انتہائی حد	ابتدائی حد
2,350	500,000	اماؤنٹ اپ ٹو
2,990	800,000	500,001
4,140	1,000,000	800,001
5,750	1,500,000	1,000,001
8,050	2,000,000	1,500,001
10,350	2,500,000	2,000,001
12,650	3,000,000	2,500,001
14,950	3,500,000	3,000,001
17,250	4,000,000	3,500,001
19,550	4,500,000	4,000,001
21,850	5,000,000	4,500,001
24,150	5,500,000	5,000,001
26,450	6,000,000	5,500,001
28,750	6,500,000	6,000,001
31,050	7,000,000	6,500,001
33,350	7,500,000	7,000,001
35,650	8,000,000	7,500,001
37,950	8,500,000	8,000,001
40,250	9,000,000	8,500,001
42,550	9,500,000	9,000,001
44,850	10,000,000	9,500,001
51,750	12,500,000	10,000,001
63,250	15,000,000	12,500,001
74,750	17,500,000	15,000,001
86,250	20,000,000	17,500,001
97,750	22,500,000	20,000,001
109,250	25,000,000	22,500,001
120,750	27,500,000	25,000,001
132,250	30,000,000	27,500,001
143,750	32,500,000	30,000,001
155,250	35,000,000	32,500,001
166,750	37,500,000	35,000,001
178,250	40,000,000	37,500,001

تجارتی اور کاروباری خدمات

189,750	42,500,000	40,000,001
201,250	45,000,000	42,500,001
212,750	47,500,000	45,000,001
224,250	50,000,000	47,500,001
235,750	52,500,000	50,000,001
247,250	55,000,000	52,500,001
258,750	57,500,000	55,000,001
270,250	60,000,000	57,500,001
281,750	62,500,000	60,000,001
293,250	65,000,000	62,500,001
304,750	67,500,000	65,000,001
316,250	70,000,000	67,500,001
327,750	72,500,000	70,000,001
339,250	75,000,000	72,500,001
350,750	77,500,000	75,000,001
362,250	80,000,000	77,500,001
373,750	82,500,000	80,000,001
385,250	85,000,000	82,500,001
396,750	87,500,000	85,000,001
408,250	90,000,000	87,500,001
419,750	92,500,000	90,000,001
431,250	95,000,000	92,500,001
442,750	97,500,000	95,000,001
454,250	1,000,000,000	97,500,001

- (i) تمام L/C کی رقم 100 ملین روپے سے متجاوز ہونے پر فی ملین مبلغ -/4,000 روپے اضافی سروس چارج لاگو ہو گئے (ہر سہائی یا اسکے کچھ حصہ پر)
- (ii) مذکورہ بالا سروس چارج میں انتظامیہ کی منظوری کی شرط پر رعایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔
- (iii) ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالیاتی معاہدے یا گارنٹی کے اجرا کے مقابل فیس / کمیشن چارج کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ معاہدے اپنی نوعیت کے اعتبار سے عقود غیر معاوضہ یا ناقابل معاوضہ ہیں۔
- تاہم اضافی متعلقہ خدمات، مثلاً دستاویزات سازی، کریڈٹ کی تخمینہ کاری، مراسلتی اکاؤنٹ کی مینٹیننس، نگرانی وغیرہ کے لئے سروس چارج کرنے کی اجازت ہے۔

تجارتی اور کاروباری خدمات

4. گارنٹری: -- ii

d.	ترمیم	مبلغ = 900 روپے فی ترمیم (ہر رقم پر یکساں چارجز) غیر ملکی کرنسی کی گارنٹی کی صورت میں -/USD 60 یا سروس چارجز جو آئٹم (b) اور (c) میں ذکر کردہ رقم پر بیان کیا گیا ہے جبکہ یہ ترمیم رقم میں اضافہ یا فعال رہنے کی مدت میں زیادتی پر مشتمل ہو۔
e.	بینک کی طرف سے جاری کردہ گارنٹری کے چارجز	بینکوں کی طرف سے جاری کردہ گارنٹری کے سروس چارجز (نمائندہ / مقامی / غیر ملکی) ان کی کاؤنٹر گارنٹری کے تحت کیس ٹوکس کی بنیاد پر مذاکرات کے ذریعہ طے کیا جائینگے جو بینک کے مکمل صوابدیدی اختیار کے مطابق ہونگے۔

نوٹ: ۱۰۰ فیصد کیش مارجن کے عوض گارنٹی کے اجراء پر کوئی چارج عائد نہیں ہوگا (مارجن کی رقم کو منافع بخش مارجن اکاؤنٹ میں رکھا جائیگا)

5. متفرقات

a.	پوسٹ / کورئیر / سوئفٹ چارجز	کمپنیکیشن ٹیرف کے مطابق
b.	کسٹمر کی درخواست پر تجارتی کارکردگی / ود ہولڈنگ ٹیکس / اسٹیٹمنٹ کی تصدیق، دیگر کسی بھی سرٹیفکیٹ کا اجراء	مبلغ = 1,000 روپے فی درخواست / سرٹیفکیٹ
c.	بیرون ملک فنانسنگ اور ایکویٹی کی رجسٹریشن	مبلغ = 1,000 روپے

نوٹ:

- بینک کی طرف سے جاری کردہ تمام گارنٹری لازمی طور سے متعینہ رقم اور اختتام معیاد کی تاریخ پر مشتمل ہونگی، اس تاریخ پر بھی جس پر مطالبہ کیا جائیگا۔
- تمام حکومتی ایکسائز اور اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکس وغیرہ اور مرسل الیہ (correspondent) بینک کے سروس چارجز (اگر ہوں) کسٹمر کے اکاؤنٹ سے ہونگے اور بینک کے سروس چارجز کے علاوہ وصول کئے جائینگے۔

جنرل بینکنگ

1. ڈرافٹ اور چیک کا ڈپازٹ

(i)	چیک اور ڈیمانڈ ڈرافٹ (غیر ملکی کرنسی میں)	ٹرانزیکشن کا 0.6 فیصد یا کم از کم مبلغ = 600 روپے زیادہ سے زیادہ = 5,000 روپے کی حد تک
(ii)	چیک / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (بشمول ڈیوڈنڈ وارنٹس، پرامیسری نوٹ وغیرہ)	اندریون شہر: ٹرانزیکشن کا 0.70 فیصد یا کم از کم مبلغ = 250 روپے زیادہ سے زیادہ = 2,500 روپے تک بیرونی شہر: ٹرانزیکشن کا 0.90 فیصد یا کم از کم مبلغ = 400 روپے زیادہ سے زیادہ = 4,000 روپے تک

2. ڈیمانڈ ڈرافٹ (ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں) اور پے آرڈر کا اجراء اور منسوخی

(i)	پے آرڈر / کال ڈپازٹ رسید کا اجراء	مبلغ - 350 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز) *
(ii)	کال ڈپازٹ رسیدوں کا اجراء	کم از کم - 100 روپے یا 0.1 فیصد اور زیادہ سے زیادہ - 400 تک فی ٹرانزیکشن پر
(iii)	پے آرڈر / کال ڈپازٹ رسید کی نقل کا اجراء	مبلغ - 400 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(iv)	پے آرڈر / کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی	مبلغ - 600 روپے
(v)	کیش پے آرڈر کا اجراء (نان اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے)	مبلغ - 1,100 روپے
(vi)	ڈیمانڈ ڈرافٹ (مقامی کرنسی میں)	ٹرانزیکشن کا 0.12 فیصد اکاؤنٹ سے منہا ہو گا یا مبلغ = 200 روپے کم از کم، زیادہ سے زیادہ مبلغ = 2,000 روپے کی حد تک
(vii)	ڈیمانڈ ڈرافٹ (مقامی کرنسی میں) نقل (Duplicate) کا اجراء	مبلغ - 400 روپے
(viii)	ڈیمانڈ ڈرافٹ (مقامی کرنسی میں) کی منسوخی	مبلغ - 400 روپے
(ix)	چیک اور ڈیمانڈ ڈرافٹ (غیر ملکی کرنسی میں)	مبلغ - 1,850 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(x)	غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹ کی نقل (Duplicate) کا اجراء	مبلغ - 1,200 روپے (ہر رقم پر یکساں چارجز)
(xi)	بینک کی طرف سے کسٹمر کی درخواست پر جاری کردہ غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹ کی منسوخی	مبلغ = 1,200 روپے بشمول سوئفٹ چارجز

نوٹ: تعلیمی اداروں، (HEC) بورڈ وغیرہ کو فیس / واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لئے پے آرڈر / ڈیمانڈ ڈرافٹ / ادائیگی سے متعلقہ کوئی اور انسٹرومنٹ چارجز، فیس / سروس چارجز واجب الادا کا 0.50 فیصد یا مبلغ - 25 روپے فی انسٹرومنٹ ہوگی، جو بھی کم ہو۔

* فیصل اسلامک کرنٹ، سیونگ اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں گزشتہ ماہ کے اوسط ماہانہ سیلینس - 50,000 روپے یا اس سے زائد رقم مقامی کرنسی میں رکھنے والے کسٹمرز پر پے آرڈر کے اجراء کے کچھ چارجز نہیں ہیں۔

جنرل بینکنگ

3. رقم کی ترسیل اور چیکس کی وصولی: (غیر ملکی اور مقامی کرنسی میں)

(i)	چیکس اور ڈیمانڈ ڈرافٹ کی وصولی (غیر ملکی کرنسی میں)	سروس چارجز، مبلغ =/1,050 روپے اور قابل اطلاق پوسٹل چارجز
(ii)	چیکس اور ڈیمانڈ ڈرافٹ کی وصولی (مقامی کرنسی میں)	فی ٹرانزیکشن کا 0.18 فیصد یا کم از کم =/400 روپے اور قابل اطلاق پوسٹل چارجز، زیادہ سے زیادہ =/4,000 روپے تک
(iii)	بیرون شہر کلیئرنگ	مبلغ =/350 روپے فی انسٹرومنٹ اسلام آباد اور راولپنڈی (جڑواں شہروں) کے درمیان بیرون شہر کلیئرنگ کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔
(iv)	ان ورڈ ترسیلات زر (برقی منتقلی - Wire Transfer)	FBL کے کسی اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں جبکہ رقم ڈالی گئی ہو۔ بصورت دیگر پے آرڈر / ڈیمانڈ ڈرافٹ پر قابل اطلاق چارجز لاگو ہونگے اور پوسٹل اور / یا سوئفٹ چارجز
(v)	اندرون ملک ترسیلات زر - (Home remittance)	کچھ نہیں۔
(vi)	آؤٹ ورڈ ٹیلی گرافک منتقلی (غیر ملکی کرنسی)	سروس چارجز -/3,700 روپے۔ غیر ملکی کیش ڈپازٹ سے 15 دن کے اندر FTT/FDD / کمیشن / ٹرانسفر / انورڈ کلیئرنگ کے ذریعے FCY رقم پر 0.5 فیصد چارجز
(vii)	سوئفٹ پیغام میں تبدیلی / سوئفٹ میج چارجز فار ریٹرن آف انورٹ FCY ریمیشنس	مبلغ =/850 روپے فی تبدیلی
(ix)	زر مبادلہ کے اجازت نامے (Permits)	
a.	اسٹوڈینٹ پرمٹ کا اجراء / پروسیسنگ	مبلغ =/5,000 روپے پہلے سال کے لئے مبلغ =/3,500 روپے اس کے بعد ہر سال کے لئے
b.	آؤٹ ورڈ ترسیلات زر کے لئے بینک دولت پاکستان سے کسی اجازت نامہ کا حصول	ٹرانزیکشن کی رقم کا 1% یا کم از کم -/300 اور زیادہ سے زیادہ -/1,500 روپے
c.	پوسٹل / کوریئر / سوئفٹ چارجز	کیونیکیشن ٹیرف کے مطابق
(x)	بیرون بینک، رقوم کی منتقلی (ریئل ٹائم گروس سیٹلمینٹ)	
a.	بیرون بینک، رقوم کی منتقلی: RTGS (MT 102) کے اوقات (پیر تا جمعہ) 9:00 بجے صبح سے 4:00 بجے دوپہر تک ہیں	کچھ نہیں
b.	بیرون بینک، رقوم کی منتقلی: RTGS (MT 103)	کچھ نہیں
ایام	ٹرانزیکشن کا وقت	کا پوریٹ / کمرشل / ریٹیل / ترجیحی
پیر تا جمعہ	9:00 بجے صبح سے 2:00 بجے دوپہر تک	کچھ نہیں
	2:00 بجے دوپہر سے 3:30 بجے دوپہر تک	کچھ نہیں
	3:30 بجے دوپہر سے 4:00 بجے دوپہر تک	کچھ نہیں

نوٹ: اسٹاف کو ماہانہ تین ترسیلات زر کی بلاعوض اجازت ہے (PO/DD/FDD/FTT/Collection)

جنرل بینکنگ

4. کلیئرنگ (آؤٹ ورڈ):

(i)	ایک دن میں کلیئرنگ (مقامی کرنسی کے چیکس) کے چار جز ایک دن میں کلیئرنگ کی سہولت صرف مخصوص برانچوں پر دستیاب ہوگی	مبلغ = 500 روپے (ہر رقم پر یکساں چار جز)
(ii)	مقامی، USD کلیئرنگ چیک	مبلغ = 550 روپے (ہر رقم پر یکساں چار جز)

5. چیک ریٹرن کے چار جز

(i)	کلیئرنگ ان ورڈ (اندرون شہر) ان ورڈ (بیرون شہر) ان ورڈ (ایک دن میں) آؤٹ ورڈ (اندرون شہر) آؤٹ ورڈ (بیرون شہر) کلکیشن چیک کی واپسی	مبلغ = 500 روپے مبلغ = 500 روپے مبلغ = 500 روپے کچھ نہیں مبلغ = 240 روپے مبلغ = 600 روپے (فنانسنگ کی اقساط کے چیک ریٹرن ہونے کی صورت میں کوئی چار جز نہیں ہیں) اسلام آباد اور راولپنڈی (جزواں شہروں) کے درمیان کوئی چار جز نہیں ہیں۔
(ii)	بذریعہ چیک نقد رقم کا حصول (بینک کے کاؤنٹر سے)	مبلغ = 200 روپے (ہر رقم پر یکساں چار جز)
(iii)	کلیئرنگ چیک کارپوریشن (ان ورڈ) USD مقامی	(ہر رقم پر یکساں چار جز) روپے = 450 مبلغ

6. چیکس / چیک بکس:

(i)	چیک بکس کا اجراء	مبلغ = 19 روپے فی چیک (اسٹاف کے سیکریٹری اکاؤنٹ سے چار جز وصول نہیں کیے جائیں گے)*
(ii)	گمشدہ ریکیوژیشن سلپ کے بدلے نئی چیک بک	مبلغ = 250 روپے اور = 19 روپے فی چیک
(iii)	چیک کی اسٹاپ پیمنٹ کے چار جز	مبلغ = 600 روپے فی ہدایت اور پوسٹ / سوکٹ چار جز

7. اسٹینڈنگ انسٹرکشن فیس:

(i)	اسٹینڈنگ ہدایات کی فیس، ترسیلات زر کے مروجہ چار جز کے ساتھ ملا کر وصول کر لی جائیگی۔ (اگر کوئی ہو)	عمومی چار جز کے ساتھ فی ٹرانزیکشن - 400 روپے (کنزیومرفنانس، منزل اور ضامن اکاؤنٹس کی صورت میں کوئی چار جز نہیں)
-----	--	---

* فیصل اسلامک کرنٹ اور سیونگ اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے پاکستانی روپے میں - 50,000 یا ناند کے سابقہ ماہانہ اوسط بیننس برقرار رکھنے والے کسٹمرز پر کوئی چار جز نہیں ہیں۔

جنرل بینکنگ

8. فیصل اسلامک بینک بینکنگ اکاؤنٹ:

(i)	ماہانہ دو دفعہ ڈپازٹ اور رقم نکوانا	کچھ نہیں
(ii)	ماہانہ دو دفعہ سے زائد ڈپازٹ اور رقم نکوانا	مبلغ = 85 روپے فی ٹرانزیکشن۔ (دیگر تمام بینکنگ خدمات، چارجز کے ساتھ مشروط ہیں جو کہ بینک کے شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوں گے)

9. فیصل اسلامک بینکنگ اکاؤنٹس کا کم از کم ماہانہ مطلوبہ اوسط بیلنس

ملکی کرنسی اکاؤنٹس		
(i)	کرنٹ اکاؤنٹس	کچھ نہیں
(ii)	بینک بینکنگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(iii)	آسان کرنٹ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(iv)	منتظم سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(v)	منتظم ماہانہ سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(vi)	سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(vii)	آسان سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(viii)	کامل بزنس اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(ix)	لائف پلس سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(x)	پے چیک پلس سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xi)	پے چیک پلس (پے رول) اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xii)	تیز ترین آسان ری میٹنس اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xiii)	تیز ترین ری میٹنس اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xiv)	رحمت بزنس اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xv)	رحمت اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xvi)	روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xvii)	منتظم پلس سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xviii)	اٹل وومن اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xix)	ڈیجیٹل اکاؤنٹس	کچھ نہیں
(xx)	منزل اکاؤنٹس	کچھ نہیں
(xxi)	ضامن اکاؤنٹس	کچھ نہیں
(xxii)	کرنٹ پے رول اکاؤنٹس	کچھ نہیں
(xxi)	مبارک سفر اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xxii)	اٹل آسان اکاؤنٹ	کچھ نہیں

جزل بینکنگ

غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ

(i)	(یو ایس ڈی) کرنٹ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(ii)	(جی بی پی) کرنٹ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(iii)	(یورو) کرنٹ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(iv)	(یو ایس ڈی) ماہانہ سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(v)	(یو ایس ڈی) ششماہی سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(vi)	(جی بی پی) سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(vii)	(جی بی پی) ششماہی سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(viii)	(یورو) سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(ix)	(یورو) ششماہی سیونگ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(x)	(سی این ڈی) کرنٹ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xi)	تمام غیر ملکی کرنسی RDA اکاؤنٹس	کچھ نہیں
(xii)	(سے پی ڈی) کرنٹ اکاؤنٹ	کچھ نہیں
(xii)	ڈیجیٹل غیر ملکی کرنسی کرنٹ اکاؤنٹ	کچھ نہیں

10. فیصل اسلامک بینکنگ اکاؤنٹس کے منافع کی ادائیگی کا دورانیہ

ملکی کرنسی اکاؤنٹ

(i)	منتظم سیونگ اکاؤنٹ	ششماہی
(ii)	منتظم ماہانہ سیونگ اکاؤنٹ	ماہانہ
(iii)	سیونگ اکاؤنٹ	ماہانہ
(iv)	آسان سیونگ اکاؤنٹ	ششماہی
(v)	کامل بزنس اکاؤنٹ	ماہانہ
(vi)	لائف پلس سیونگ اکاؤنٹ	ماہانہ
(vii)	پے چیک پلس سیونگ اکاؤنٹ	ششماہی
(viii)	پے چیک پلس (پے رول) اکاؤنٹ	ششماہی
(ix)	رحمت بزنس اکاؤنٹ	ماہانہ
(x)	رحمت اکاؤنٹ	ماہانہ
(xi)	تیز ترین آسان ری میٹنس اکاؤنٹ	ماہانہ
(xii)	تیز ترین ری میٹنس اکاؤنٹ	ماہانہ
(xiii)	فیصل اسلامک رحمت اکاؤنٹ PKR-NRP	ماہانہ
(xiv)	فیصل اسلامک سیونگ اکاؤنٹ PKR-NRP	ماہانہ
(xv)	فیصل اسلامک منزل اکاؤنٹ	ماہانہ
(xvi)	فیصل اسلامی ضامن اکاؤنٹ	ماہانہ

جنرل بینکنگ

(xvii)	فیصل اسلامی منتظم پلس (ماہانہ)	ماہانہ
(xviii)	فیصل اسلامی منتظم پلس (ششماہی)	ششماہی
(xix)	آسان ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ	ششماہی
(xx)	ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ	ماہانہ
(xix)	اٹل و من اکاؤنٹ	ششماہی
(xx)	مبارک سفر اکاؤنٹ	ماہانہ

غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ

(i)	(یو ایس ڈی) ماہانہ سیونگ اکاؤنٹ	ماہانہ
(ii)	(یو ایس ڈی) ششماہی سیونگ اکاؤنٹ	ششماہی
(iii)	(جی بی پی) سیونگ اکاؤنٹ	ماہانہ
(iv)	(جی بی پی) ششماہی سیونگ اکاؤنٹ	ششماہی
(v)	(یورو) سیونگ اکاؤنٹ	ماہانہ
(vi)	(یورو) ششماہی سیونگ اکاؤنٹ	ششماہی
(iv)	فیصل اسلامی سیونگ اکاؤنٹ USD-NRP	ماہانہ
(v)	فیصل اسلامی رحمت اکاؤنٹ USD-NRP	ماہانہ
(vi)	ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ USD	ماہانہ

منافع کی ادائیگی کے لئے کم سے کم اوسط بیلنس

11.

مقامی / غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس میں منافع کی ادائیگی کے لئے کم سے کم اوسط بیلنس درکار نہیں ہے۔

فیصل اسلامک آسان کرنٹ اکاؤنٹ اور فیصل اسلامک آسان سیونگ اکاؤنٹ میں ماہانہ کل ڈیبٹ بیلنس -/1,000,000 اور کل کریڈٹ بیلنس -/1,000,000 کی حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

درج ذیل لمٹس تیر ترین آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ پر لاگو ہیں

-/500,000 روپے روزانہ کیش نکالنے پر

-/500,000 روپے روزانہ فنڈ ٹرانسفر / IBFT پر

مقامی کریڈٹ کی اجازت: روپے 1,000,000 فی مہینہ

زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کریڈٹ بیلنس کی حد -/3,000,000 پر

مندرجہ ذیل اکاؤنٹس کی اقسام بہر صورت سروس چارجز کے وصول کئے جانے سے مستثنیٰ ہوگی۔ خواہ کوئی بھی وجہ ہو۔

a. فنانسنگ اکاؤنٹس

b. طلبہ

c. زکوٰۃ کے مستحقین

d. سرکاری / نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کے سیلری اکاؤنٹس

e. بیوائیں

f. وفات پانے والے ملازمین کے بچے جو کہ فیملی پینشن کے اہل ہوں

g. بینولنٹ فنڈ کی گرانٹ وغیرہ

جنرل بینکنگ

h.	سٹیزن کمیونٹی بورڈز کے اکاؤنٹس
i.	اسکول مینجمنٹ کمیٹی اکاؤنٹ (SMC)
j.	پینشن کے مقصد سے کھولے گئے اکاؤنٹ
k.	بزرگ شہریوں کی جانب سے کھولے گئے اکاؤنٹ
l.	معذور افراد کی جانب سے کھولے گئے اکاؤنٹ

12. سیف ڈپازٹ میں سامان کی فیس:

سیف ڈپازٹ میں سامان کی تحویل (ڈپازٹ کے وقت ہی پیشگی وصولی کر لی جائیگی یا ہر سہ ماہی کی ابتداء میں)		
a.	باکس اور پیکیجز	مبلغ = 2.25 روپے فی 100 کیوب انچ یا اس کا کچھ حصہ کم از کم -/250 روپے ہر سہ ماہی پر
b.	لفافے	مبلغ = 0.62 روپے فی 25 اسکوائر انچ یا اس کا کچھ حصہ کم از کم -/60 روپے ہر سہ ماہی پر

13. سیف ڈپازٹ لاکرز:

a.	سیف ڈپازٹ لاکرز کا سالانہ کرایہ	
	(i) چھوٹا	مبلغ = 4,000 روپے
	(ii) درمیانہ	مبلغ = 5,500 روپے
	(iii) بڑا	مبلغ = 7,500 روپے
	(iv) زیادہ بڑا	مبلغ = 12,000 روپے
b.	چابی (Key) کے چارجز	-/3,500 روپے فی لاکر (امریکی ڈالر اور غیر ملکی کرنسی والے اکاؤنٹ پر ڈالر کے مساوی رقم)
c.	لاکروں کے چارجز	مبلغ = 5,000 روپے اور فروخت کنندہ / فراہم کنندہ کے اصل چارجز
d.	چیریٹی کی رقم (تاخیر سے ادائیگی)	چھوٹے اور درمیانے کے -/1,000 روپے اور بڑے اور زیادہ بڑے کے -/1,500 روپے
e.	لاکرز کے مارجن کی حد	پاک روپے یو ایس ڈالرز 100,000 روپے 2,500 ڈالرز 125,000 روپے 3,000 ڈالرز 150,000 روپے 5,000 ڈالرز 225,000 روپے 10,000 ڈالرز ایکسٹرا بڑے لاکرز اوپر دیئے گئے مارجن اکاؤنٹ میں بیلنس برقرار رکھنے پر لاکر چارجز چھوڑ دیئے جائیں گے چیریٹی کا اطلاق نہیں ہوگا

نوٹ: اسٹاف کو چابی (Key) چارجز کے بغیر ایک لاکر کی اجازت ہے جبکہ سالانہ کرایہ مذکورہ بالا کردہ نرخوں کا ۵۰ فیصد ہوگا۔

جنرل بینکنگ

14. متفرقات:

(i)	اکاؤنٹ کی دیکھ بھال / پروپر انٹر شپ / ریفرنس / بیلنس تصدیقی سرٹیفکیٹ	ایکٹو اکاؤنٹس کے لیے - 430/- روپے فی سرٹیفکیٹ بند اکاؤنٹس کے لیے - 1000/- روپے فی سرٹیفکیٹ
(ii)	آڈیٹرز کو بیلنس کی تصدیق	مبلغ = 425/- روپے فی سرٹیفکیٹ
(iii)	ہولڈ میل چارجز	مبلغ = 3,000/- روپے سالانہ (پیشگی وصول کئے جائیں گے) صرف موجودہ ہولڈ میل کسٹرز کے لئے
(iv)	ڈیپٹ اور کریڈٹ ایڈوانسز کی نقل (Duplicate)، لیٹر آف کریڈٹ کی اضافی کاپیوں سوئفٹ وغیرہ کی فراہمی	مبلغ = 100/- روپے فی انشرومنٹ
(v)	اکاؤنٹ کے اسٹیٹمنٹ کی نقل (Duplicate)	مبلغ = 35/- روپے (FED) پروو نفل / صوبائی سیلز ٹیکس کے ساتھ
(vi)	فیکس چارجز	مقامی: مبلغ = 150/- روپے فی کاغذ غیر ملکی: مبلغ = 350/- روپے فی کاغذ
(vii)	۳۰ دن سے کم ادا شدہ چیکس کی کاپی (کی فراہمی)	مبلغ = 400/- روپے فی چیک
(viii)	۳۰ دن کے بعد ادا شدہ چیکس کی کاپی (کی فراہمی)	مبلغ = 700/- روپے فی چیک
(ix)	پروسیڈر نیلازیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء ۶ مہینے زائد، پچھلے ترسیلات زر کے لئے	مفت
(x)	پروسیڈر نیلازیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء ۱۲ مہینے زائد، پچھلے ترسیلات زر کے لئے	مبلغ = 500/- روپے
(xi)	ایم آئی ٹی ایف (مینول انیشیئڈ فنڈز کی منتقلی) کی فیکس ٹرانزیکشن	مبلغ = 250/- روپے ماہانہ
(xii)	غیر ملکی کرنسی فنانس ایگریمنٹ کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رجسٹرڈ کروانے کی انتظامی فیس	معادہ کے مطابق
(xiii)	نقدی کو حاصل کرنا اور پہنچانا "سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے"	مبلغ = 700/- روپے فی چکر (Trip) بشمول سیکیورٹی ایجنسی کے اصل چارجز
(xvi)	ماہانہ فزیکل اسٹیٹمنٹ چارجز	مبلغ = 50/- روپے (FED) پروو نفل / صوبائی سیلز ٹیکس کے ساتھ
(xv)	سالانہ فزیکل اسٹیٹمنٹ چارجز	مبلغ = 35/- روپے (FED) پروو نفل / صوبائی سیلز ٹیکس کے ساتھ
(xvi)	ٹیکس کی وصولی کے چارجز	مبلغ = 350/- روپے (FED) پروو نفل / صوبائی سیلز ٹیکس کے ساتھ
(xvii)	انٹر نل اکاؤنٹ ٹرانسفر انشرومنٹ کے بغیر	مبلغ = 20/- روپے
(xviii)	چیک بک / ڈیپٹ کارڈ کی ڈیلیوری کے چارجز	مبلغ = 250/- روپے

ماہانہ فزیکل اسٹیٹمنٹ صرف ان فعال اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھیجا جائے گا جنہوں نے ای اسٹیٹمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔

نوٹ: اسلامک بینکنگ کے کسٹمرز پر بیرون شہر آن لائن ٹرانزیکشن (وصول کرنا اور ڈپازٹ کروانا) پر کوئی چارجز نہیں ہیں۔

* فیصل اسلامک کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس میں گزشتہ ماہ کے اوسطاً ماہانہ سلیمنس - / 50,000 روپے یا اس سے زائد رقم مقامی کرنسی میں رکھنے والے کسٹمرز پر کچھ چارجز نہیں ہیں۔

جنرل بینکنگ

15. فیصل اسلامک برکت انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ (بی آئی سی)

(i)	مطلوبہ کم از کم رقم	
(a)	بی آئی سی اور لائف پلس انویسٹمنٹ (روپے)	=/50,000 (پاکستانی روپے)
(b)	فیصل اسلامی انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ (روپے)	=/500,000 (پاکستانی روپے)
(c)	برکت (یو ایس ڈی) انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ	=/1,000 (یو ایس ڈی)
(d)	برکت (جی بی پی) انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ	=/1,000 (جی بی پی)
(e)	برکت (یورو) انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ	=/1,000 (یورو)
(ii)	اوقات (Frequencies) جس میں منافع ادا کیا جائیگا۔	
(a)	برکت ماہانہ انکم سرٹیفیکیٹ (BMIC) (صرف پاکستانی کرنسی کی انویسٹمنٹ کی صورت میں)	منافع کی ادائیگی ماہانہ
(b)	برکت سہ ماہی انکم سرٹیفیکیٹ (BQIC) (صرف پاکستانی کرنسی کی انویسٹمنٹ کی صورت میں)	منافع کی ادائیگی سہ ماہی
(c)	برکت ششماہی انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ (BHIC) (صرف پاکستانی کرنسی کی انویسٹمنٹ کی صورت میں)	منافع کی ادائیگی ششماہی
(d)	برکت سالانہ انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ (BYIC) (صرف پاکستانی کرنسی کی انویسٹمنٹ کی صورت میں)	منافع کی ادائیگی سالانہ
(e)	برکت اسلامک انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹ (BIIC) (غیر ملکی کرنسی اور پاکستانی کرنسی کی انویسٹمنٹ کی صورت میں)	منافع کی ادائیگی معیاد کے ختم ہونے پر
(f)	فیصل اسلامی انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹس - 1 سال ماہانہ	منافع کی ادائیگی ماہانہ
(g)	فیصل اسلامی انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹس - 1 سال معیاد ختم ہونے پر	منافع کی ادائیگی معیاد کے ختم ہونے پر
(h)	فیصل اسلامی لائف پلس انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹس - 1 سال ماہانہ	منافع کی ادائیگی ماہانہ
(i)	فیصل اسلامی لائف پلس انویسٹمنٹ سرٹیفیکیٹس - 1 سال معیاد ختم ہونے پر	منافع کی ادائیگی معیاد کے ختم ہونے پر

(iii) نفع اور نقصان کا نظام (Mechanism)

فیصل بینک لمیٹڈ فیصل اسلامک بینکنگ کے تحت BIIC/ BQIC کے حامل سرمایہ کار اور بینک کے درمیان رب المال (سرمایہ کا مالک) اور مضارب (رقم کو استعمال کرنے والا) کا تعلق ہوگا۔ بینک، مضارب کی حیثیت سے سسٹر سے حاصل کردہ رقم کو (عمومی یا خصوصی مضاربہ پول کے ذریعہ) کسی بھی مطابق شریعت، اثاثہ میں استعمال کرنے کا اختیار رکھے گا۔	
ڈپازٹ شدہ رقم پر منافع کے ریٹ کا فیصلہ، موافق شریعت، نظام کے ذریعہ اوزان کے حساب کتاب سے کیا جائیگا جو کا اعلان مضاربہ کی نئی میعاد کے شروع ہونے سے تین کاروباری دن پہلے کر دیا جائیگا اور آنے والے شمسی مہینے سے قابل اطلاق ہوگا۔ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہولڈر منافع میں اپنے حصے کا حقدار ہوگا جو کہ اسلامک بینکنگ کی برانچوں کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہوگا۔ نقصان کو ہر ڈپازٹ ہولڈر سرمایہ کاری میں اپنے اپنے حصہ کے تناسب سے برداشت کریگا۔	
بینک منافع کے حتمی ریٹ کا اعلان کریگا جو کہ BIC پر ہر شمسی مہینے کے آٹھ کاروباری ایام میں قابل اطلاق ہوگا۔ یہ ریٹ گزشتہ شمسی مہینے کے منافع کے حساب کتاب کے لئے استعمال کیا جائیگا۔	

جنرل بینکنگ

(a) اوزان	
- یہ ایک مکمل عدد ہے جو کہ کسی چیز کی نشان دہی نہیں کرتا تا وقتیکہ اس کا موازنہ دوسری قسم کے وزن سے نہ کیا جائے۔ - یہ ان اقسام کے مابین منافع کے نرخ کے فرق کے متعلق محض ایک تصور دیتا ہے۔ - اوزان (Weightages) سرمایہ کاری کی پروڈکٹس کے درجہ اور دورانیہ کے حساب سے متعین کئے جاتے ہیں۔ - سرمایہ کاری کی ان پروڈکٹس پر نفع، ان اوزان سے ماخوذ کیا جاتا ہے جو ان کے لئے متعین کئے گئے ہیں۔	

مثال:

ایک مہینہ کے لئے - برکت انویسٹ سرٹیفکیٹ	اوزان **	متوقع ریٹ **
BIIC	1.10	5.25%
تین مہینے کے لئے - برکت انویسٹ سرٹیفکیٹ	اوزان **	متوقع ریٹ **
BIIC	1.40	6.15%
BMIC	1.20	5.35%
چھ مہینے کے لئے - برکت انویسٹ سرٹیفکیٹ	اوزان **	متوقع ریٹ **
BIIC	1.50	6.25%
BMIC	1.30	6.10%

نوٹ: مزید تفصیلات کے لئے فیصل اسلامک برکت انویسٹ سرٹیفکیٹ کی شرائط و ضوابط کا مطالعہ فرمائیں۔

(iv) BIC کے لئے نفع کے حساب کتاب کا طریقہ کار	
نفع = (رقم x ریٹ جس کا اعلان کیا گیا ہو) x 365 مہینہ کے ایام کی تعداد	
ود ہولڈنگ ٹیکس @ 10% = (نفع x WHT 10%)	
خالص نفع	نفع - WHT

(v) BIC کے لئے نفع کے حساب - مثال 1				
1,000,000	سرمایہ کاری کی رقم			
3 مہینے	اختیار کردہ مدت			
معیار کے اختتام پر (BIIC)	نفع کی ادائیگی کا وقت			
1 جنوری 16	حوالگی کی تاریخ			
1 اپریل 16	اختتام معیار کی تاریخ			
16 - جنوری	16 - فروری	16 - مارچ		
1,000,000	1,000,000	1,000,000	رقم	
1.4	1.4	1.4	مقررہ وزن **	
6.15%	6.15%	6.15%	نرخ **	
31	28	31	ایام کی تعداد	
5,223.29	4,717.81	5,223.29	منافع	
522.33	471.78	522.33	WHT 10% کی کٹوتی	
13,647.95	4,700.96	4,246.03	4,700.96	خالص منافع

جزل بینکنگ

نوٹ: ود ہولڈنگ ٹیکس (WHT) کو ۱۰ فیصد صرف حساب کتاب کی مثال کے لئے فرض کیا گیا ہے۔ یہ مختلف طبقات "فائلرز، نان فائلرز" کے اعتبار سے پاکستان کے موجودہ قانون کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔
** مندرجہ بالا حساب کتاب کے لئے استعمال کئے گئے ریٹ اور اوزان بطور مثال ہیں اور انکو حقیقی شمار نہیں کیا جائے۔

16. فیصل اسلامک برکت انویسمنٹ سرٹیفکیٹ کی قبل از وقت انکیشمنٹ (ملکی کرنسی یا غیر ملکی کرنسی)

اگر قبل از وقت انکیشمنٹ (ملکی کرنسی یا غیر ملکی کرنسی) کی درخواست اگلے متفق معیاد کی تکمیل سے پہلے موصول ہو تو قلع کاروبار حساب کتاب اعلان کردہ ان فائنل ریٹس کی بنیاد پر ہو گا جو مندرجہ بالا گرڈ میں موجود ہیں:

BIIC	BYIC	BHIC	BQIC	BMIC	مکمل شدہ مدت
فیصل اسلامک سیونگ اکاؤنٹس کی جانب سے اعلان کردہ کم از کم منافع کی حتمی شرح					ایک مہینہ سے کم
ایک مہینہ (BIIC)					ایک مہینہ سے زیادہ لیکن تین مہینے سے کم
تین مہینے (BIIC)	تین مہینے (BIIC)	تین مہینے (BIIC)	تین مہینے (BIIC)	تین مہینے (BMIC)	تین مہینے سے زیادہ لیکن چھ مہینے سے کم
چھ مہینے (BIIC)	چھ مہینے (BIIC)	چھ مہینے (BIIC)	چھ مہینے (BQIC)	چھ مہینے (BMIC)	چھ مہینے سے زیادہ لیکن ایک سال سے کم
ایک سال (BIIC)	ایک سال (BIIC)	ایک سال (BHIC)	ایک سال (BQIC)	ایک سال (BMIC)	ایک سال سے زیادہ لیکن دو سال سے کم
دو سال (BIIC)	دو سال (BYIC)	دو سال (BHIC)	دو سال (BQIC)	دو سال (BMIC)	دو سال سے زیادہ لیکن تین سال سے کم
تین سال (BIIC)	تین سال (BYIC)	تین سال (BHIC)	تین سال (BQIC)	تین سال (BMIC)	تین سال سے زیادہ لیکن پانچ سال سے کم

نوٹ:

اگر گرڈ کے مطابق اعلان کردہ ریٹ موجود نہیں ہوں، تو اعلان کردہ حتمی ریٹ میں قریب ترین مدت / نفع کی ادائیگی کی فریکوئنسی / درجہ کا اطلاق ہو گا۔

ماہانہ پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BMIC)، سہ ماہی پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BQIC)، ششماہی پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BHIC) اور سالانہ پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BYIC) کی قبل از وقت انکیشمنٹ ہونے کی صورت میں اضافی گراس پروفٹ (Gross Profit) کسٹمرز سے واپس وصول کر لیا جائیگا۔

ود ہولڈنگ ٹیکس یا دیگر حکومتی لیویز میں کسی فرق کی صورت (جو کہ ماہانہ پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BMIC) سہ ماہی پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BQIC)، ششماہی پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BHIC) اور سالانہ پرافٹ پے آؤٹ سرٹیفکیٹ (BYIC) کی قبل از وقت انکیشمنٹ کے بعد پیدا ہوا ہو) میں بینک کچھ بھی واپس نہیں لوٹائے گا۔

جنرل بینکنگ

17. قبل از وقت انکسٹنٹ کی مثالیں:

	مثال - 1	(i)
1,000,000	سرمایہ کاری کی رقم	
تین ماہ	اختیار کردہ مدت	
اختتام پر (BIIC)	نفع کا وقت	
- 1 اپریل 16 -	رقم لگانے کی تاریخ	
- 1 جولائی 16 -	اختتام کی تاریخ	
- 10 مئی 16 -	انکسٹنٹ کی تاریخ	
ایک مہینہ اور نو دن	انویسٹمنٹ کا کل دورانیہ	
ایک مہینہ (BIIC)	نزدیک ترین تکمیل شدہ مدت	
نفع کا حساب		
1.40	** اس انویسٹمنٹ کے لئے متعین کردہ مدت اور درجہ کا وزن	
6.15%	** اپریل ۲۰۱۶ کو تین ماہی (BIIC) کے لئے اعلان کردہ ریٹ	
39 دن	دنوں میں انویسٹمنٹ کی کل مدت	
PKR 6,571.23 { (1,000,000 x 6.15%) /365x 39 }	منافع:	
PKR 657.12 { 10% x 6,571.23 }	* ود ہولڈنگ ٹیکس	
PKR 5,914.11 { (PKR 6,571.23 - PKR 657.12) }	خالص منافع	
قبل از وقت انکسٹنٹ بمطابق نظر ثانی شدہ کیلو لیشن (حساب)		
1.10	** اس انویسٹمنٹ کی مدت اور درجہ کے لئے مقررہ وزن	
5.25%	** اپریل ۲۰۱۶ کو ایک ماہی (BIIC) کے لئے اعلان کردہ نرخ	
39 دن	دنوں میں سرمایہ کاری کا دورانیہ	
PKR 5,609.58 { (1,000,000 x 5.25%) /365x 39 }	نفع	

جنرل بینکنگ

PKR 560.95 { 10% x 5,609.58 }	*ودہولڈنگ ٹیکس	
PKR 5,048.63 { PKR 5,609.58 - PKR 560.95 }	خالص منافع	
نظر ثانی شدہ نفع 5,048.63 روپے کسٹر کے PLS / کرنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جائیگا۔		

نوٹ: * 10 فیصد وودہولڈنگ ٹیکس (WHT) کو صرف حساب کتاب کی مثال کے لئے فرض کیا گیا ہے۔ یہ مختلف طبقات، فائلرز اور نان فائلرز کے لئے پاکستان کے موجودہ قوانین کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔

** مندرجہ بالا کیلکولیشن کے لئے ریٹ اور اوزان کا استعمال صرف ایک مثال کے طور پر ہے اور اسکو حقیقت کے مطابق نہیں سمجھا جائے۔

مثال - 2	
1,000,000	(ii) سرمایہ کاری کی رقم
چھ ماہ	اختیار کردہ مدت
ماہوار (BMIC)	نفع کا وقت
1 اپریل 16 -	رقم لگانے کی تاریخ
1 اکتوبر 16 -	اختتام کی تاریخ
17 جولائی 16 -	انکیشمنٹ کی تاریخ
تین مہینے اور آٹھ دن	انویسمنٹ کا کل دورانیہ
تین مہینے (BMIC)	نزدیک ترین تکمیل شدہ مدت

نفع کا حساب

مہینے	** ششماہی BMIC کے لئے اعلان کردہ ریٹس	** مقرر کردہ وزن	ایام	حساب کردہ نفع
Apr-16	6.10%	1.30	30	5,013.70
May-16	6.11%	1.31	31	5,189.32
Jun-16	6.10%	1.30	30	5,013.70
Jul-16	6.10%	1.30	16	2,673.97
حساب کردہ کل گروس منافع				17,890.68

جنرل بینکنگ

قبل از وقت انکیشمنٹ پر نظر ثانی کردہ منافع کا حساب کتاب

مہینے	**سہائی BMIC کے لئے اعلان کردہ ریٹس	**مقرر کردہ وزن	ایام	حساب کردہ نفع
Apr-16	5.35%	1.20	30	4,397.26
May-16	5.35%	1.20	31	4,543.84
Jun-16	5.35%	1.20	30	4,397.26
Jul-16	5.35%			
ناقص مدت کا معاوضہ مکمل شدہ مدت کے لئے آخری اعلان کردہ فائنل ریٹس کی بنیاد پر ہو گا۔ یہ جب ہو گا کہ قبل از وقت انکیشمنٹ کی تاریخ، نفع کا اعلان کرنے کی تاریخ سے پہلے واقع ہو اور نفع کا حساب ان ایام کی تعداد کے لئے ہو گا جس میں رقم مسلسل انویسٹ رہی ہو۔				
		1.20	15	2,198.63
کل نفع جو کہ کسٹمر کے PLS / کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کیا گیا۔				15,536.99
اضافی گروس نفع = PKR 2,353.70 (PKR 15,536.99 - PKR 17,890.68) ادا شدہ اضافی گروس نفع 2,353.70 پاکستانی روپے کے اکاؤنٹ سے وصول کر لئے جائینگے یا اصل رقم سے برابر کر لئے جائینگے۔				

نوٹ: * وہ ہولڈنگ ٹیکس کو ۱۰ فیصد صرف مثال کے حساب کے مقصد سے فرض کیا گیا ہے یہ مختلف طبقات، فائلر اور نان فائلر کے لئے پاکستان کے موجودہ قوانین کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔

** مذکورہ حساب میں ریٹ اور اوزان کا استعمال صرف بطور مثال ہے اور اسکو حقیقت کے مطابق نہ سمجھا جائے۔

18. کیو نیکشن ٹیرف (صارف سے رابطہ کے چار جز)

(i)	اختیار کردہ مدت
a.	تمام اوور سیز (سمندر پار) جگہوں کے لئے اصل خرچ
b.	اندرون ملک کے چار جز مبلغ = 215 روپے فی آئٹم
c.	اندرون شہر کے چار جز مبلغ = 110 روپے فی آئٹم

جنرل بینکنگ

(ii) رجسٹرڈ پوسٹ		
a.	پاکستان سے باہر	مبلغ = 150 روپے فی 50 گرام یا اس کے کچھ حصے پر
b.	اندرون پاکستان	مبلغ = 50 روپے فی 50 گرام یا اس کے کچھ حصے پر
c.	فیکس / ٹیلی فون چارجز	اصل خرچہ + 30% فیصد بطور ہینڈلنگ چارجز
(iii) عام میل		
a.	پاکستان سے باہر	مبلغ = 200 روپے فی 50 گرام (اگلے ہر 50 گرام پر یا اسکے کچھ حصے پر مزید = 53 روپے)
b.	اندرون پاکستان	مبلغ = 50 روپے ہر 50 گرام (اگلے ہر 50 گرام پر یا اسکے کچھ حصے پر مزید = 27 روپے)
(vi) سوئفٹ چارجز		
a.	لیٹر آف کریڈٹ بذریعہ فل سوئفٹ (full SWIFT)	مبلغ = 2,000 روپے
b.	لیٹر آف کریڈٹ بذریعہ شارٹ سوئفٹ (Short SWIFT)	مبلغ = 800 روپے
c.	لیٹر آف کریڈٹ میں ترمیم بذریعہ سوئفٹ	مبلغ = 800 روپے
d.	بیرون ملک کے لئے سوئفٹ چارجز	مبلغ = 800 روپے
e.	اندرون پاکستان کے لئے سوئفٹ چارجز (فل)	مبلغ = 350 روپے
f.	اندرون پاکستان کے لئے سوئفٹ چارجز (شارٹ)	مبلغ = 160 روپے

جنرل بینکنگ

19. فیصل اسلامک رحمت بزنس اکاؤنٹ

یہ مضاربہ کی بنیاد پر باسہولت کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے صارفین کو ان کے سابقہ اوسط بیلنس کے تحت شاندار خدمات کی پیش کش کی جاتی ہے۔	
1	بنیادی استثنجات۔ گزشتہ ماہ کا درکار اوسط بیلنس:-/50,000 روپے
i.	مفت چیک بک
ii.	مفت ویزا کلاسک / چائنایونین پے ڈیبٹ کارڈ
iii.	مفت آن لائن بینکنگ
iv.	مفت پے آرڈرز
v.	مفت ای۔ اسٹیٹمنٹ
vi.	مفت اسٹیٹنگ انٹرکشنز
vii.	مفت پے آرڈرز کی منوفی
viii.	مفت چیکس پر اسٹاپ پے منٹ
ix.	مفت اسی دن کلیئرنگ
x.	مفت ۳۰ دن سے کم ادا شدہ چیکس کی کاپی
xi.	مفت انٹرنیٹ کلیئرنگ
xii.	مفت ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
xiii.	مفت فیصل ڈیجیٹل بیک موبائل اور انٹرنیٹ بینکنگ
xiv.	مفت ایس ایم ایس الرٹس
2	اضافی استثنجات۔ گزشتہ ماہ کا درکار اوسط بیلنس:-/1,000,000 روپے
i.	بنیادی استثنجات کی تمام سہولیات اس میں شامل ہیں
ii.	مفت انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر
iii.	ایس ٹی ایم، Link-1 سے مفت کیش نکلوانا
iv.	مفت سرٹیفیکیٹس (اکاؤنٹ میٹیننس / بیلنس کنفرمیشن)
v.	مفت گولڈ ویزا ڈیبٹ کارڈ
vi.	مفت بزنس کور تکافل
vii.	کیش نکلوانے کی صورت میں مفت تکافل کوریج
3	پریمیم استثنجات۔ گزشتہ ماہ کا درکار اوسط بیلنس:-/3,000,000 روپے
i.	بنیادی اور اضافی استثنجات کی تمام سہولیات اس میں شامل ہیں
ii.	مفت کیش کلیمیشن کی سہولت (ایک ماہ میں چار مرتبہ)
iii.	مفت LC اور Guarantee کا اجراء*
iv.	مفت پلائئم ڈیبٹ کارڈ
4	مفت اضافی سہولیات اور مراعات:
i.	سالانہ اوسط:-/3,000,000 بیلنس برقرار رکھنے پر چھوٹے لاکر پر چار جز لاگو نہیں ہونگے
ii.	سالانہ اوسط:-/5,000,000 بیلنس برقرار رکھنے پر چھوٹے / درمیانے لاکر پر چار جز لاگو نہیں ہونگے
iii.	گزشتہ سہ ماہی کے اوسط:-/3,000,000 بیلنس برقرار رکھنے پر فیصل اسلامک رحمت بزنس پلائئم کسٹمرز "فیصل پرائیویٹ بینکنگ" کے لیے اہل ہو جائیں گے۔
شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔	
نوٹ: فیصل اسلامک کامل بزنس اکاؤنٹ کے ذریعے بالترتیب سلور، گولڈ اور پلائئم میبرز کے تحت بھی خدمات فراہم کی جارہی ہیں	

جنرل بینکنگ

20. فیصل اسلامی رحمت انفرادی اکاؤنٹ

1	بنیادی استثناجات۔ - گزشتہ ماہانہ اوسط بیلنس / - PKR 50,000 سے زیادہ
	مفت چیک بک
	مفت پے آرڈر جاری کرنا
	مفت ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
2	پلس استثناجات۔ - گزشتہ ماہانہ اوسط بیلنس / - PKR 1,000,000 سے زیادہ
	مفت ڈیبٹ کارڈ کا اجراء
	مفت الٹک سے کیش نکالنا۔ دوسرے نیٹ ورکس پر اے ٹی ایم سے کیش نکالنے پر کوئی کٹوتی نہیں۔
	مفت انٹرنیٹ فنانسنگ سروسز۔ دوسرے بینک اکاؤنٹس میں رقوم کی منتقلی پر کوئی چارجز نہیں۔
	مفت سرٹیفکیٹ (بیلنس کی تصدیق / اکاؤنٹ میئنٹیننس)
	مفت SMS الرٹس
	مفت ای بیانات
	مفت اسی دن اور انٹرنسٹی کلیرنگ
	مفت فیصل ڈیجیٹل بینک موبائل ایپ اور انٹرنیٹ بینکنگ
	مفت اسٹینڈنگ ہدایات
	مفت پے آرڈر کی منسوخی
	چیک پر مفت سٹاپ ادائیگی

21 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

i.	چار جز کی تفصیل	فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ (FCVA)	نان ریزیڈنٹ روپی ویلیو اکاؤنٹ (NRVA)
ii.	ڈیبٹ کارڈ چارجز	کوئی نہیں	کوئی نہیں
iii.	ڈیبٹ کارڈ سالانہ چارجز	کوئی نہیں	- / 1150 روپے
iv.	ڈپلیکیٹ ڈیبٹ ماسٹر کارڈ کلاسک (تبدیلی کی فیس)	کوئی نہیں	- / 700 روپے
v.	ڈیبٹ کارڈ ڈیلیوری چارجز	کوئی نہیں	اصل پوسٹل چارجز کے مطابق

جنرل بینکنگ

vi.	ورچوئل ڈیبٹ کارڈ اجراء کے چارجز (ایک مرتبہ لوڈ کرنے کے قابل کارڈز کے لیے)	کوئی نہیں	درج ذیل کارڈ لمٹ کے لیے اجراء کی فیس اس طرح ہے: 3000 تک لمٹ کے لیے 120 روپے 5000 تک لمٹ کے لیے 185 روپے 20,000 تک لمٹ کے لیے 310 روپے 50,000 تک لمٹ کے لیے 435 روپے 100,000 تک لمٹ کے لیے 550 روپے
vii.	ورچوئل ڈیبٹ کارڈ اجراء کے چارجز (دوبارہ لوڈ کے قابل کارڈز کے لیے)	کوئی نہیں	درج ذیل کارڈ لمٹ کے لیے اجراء کی فیس اس طرح ہے: 3000 تک لمٹ کے لیے 120 روپے 5000 تک لمٹ کے لیے 185 روپے 20,000 تک لمٹ کے لیے 310 روپے 50,000 تک لمٹ کے لیے 435 روپے 100,000 تک لمٹ کے لیے 550 روپے
viii.	دوبارہ لوڈ کی فیس	کوئی نہیں	مفت
ix.	چیک بک کا اجراء	19 روپے فی ورق	
x.	چیک بک کی فراہمی	اصل پوسٹل چارجز کے مطابق	
xi.	ان ورڈر میٹنس (میر و ن ملک سے)	کوئی نہیں	کوئی نہیں
xii.	آؤٹ ورڈر میٹنس (پاکستان سے)	کوئی نہیں	کوئی نہیں

جنرل بینکنگ

xiii.	انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر (مقامی)	کوئی نہیں	لین دین کی رقم کا 0.1% یا 200 روپے، جو بھی کم ہو۔
xiv.	کارڈ کے ذریعے رقم نکالنا (پاکستان میں)	کوئی نہیں	فیصل بینک کے اے ٹی ایم پر کوئی نہیں، الٹک، ایم نیٹ ممبر اے ٹی ایم پر 23.44 روپے
xv.	کارڈ کے ذریعے رقم نکالنا (بین الاقوامی)	کوئی نہیں	4 فیصد یا 300 روپے جو بھی زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ چارجز -/3000 روپے
xvi.	ایس ایم ایس الرٹس	کوئی نہیں	کوئی نہیں
xvii.	کرنسی تبدیل کرنے کے چارجز (ورچول کارڈ)	ٹرانزیکشن کی رقم کے 3.5 فیصد تک، بشمول کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس ماسٹر کارڈ کے مطابق	ٹرانزیکشن کی رقم کے 3.5 فیصد تک، بشمول کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس ماسٹر کارڈ کے مطابق
xviii.	پوسٹل چارجز	اصل کے مطابق	اصل کے مطابق
xix.	اکاؤنٹ برقرار رکھنے کے چارجز	کوئی نہیں	کوئی نہیں
xx.	پے آرڈر کا اجراء	-/350 روپے یکساں	-/350 روپے یکساں
xxi.	ڈپلیکیٹ پے آرڈر	-/400 روپے یکساں	-/400 روپے یکساں
xxii.	کال سینٹر کے ذریعے پے آرڈر کا اجراء	-/150 روپے یکساں	-/150 روپے یکساں
xxiii.	پے آرڈر کی منسوخی	-/600 روپے	-/600 روپے

جنرل بینکنگ

22 ڈیجیٹل اکاؤنٹس

چار جز کی تفصیل	PKR اکاؤنٹس	غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس
پے پاک / ماسٹر کارڈ کلاسک ڈیبٹ کارڈ کا اجراء	مفت	N/A
دیگر ڈیبٹ کارڈ کا اجراء	موجودہ SOC کے مطابق	N/A
ڈیبٹ کارڈ کے سالانہ چارجز	موجودہ SOC کے مطابق	N/A
ابتدائی چیک بک کا اجراء (۱۰ اپتے)	مفت	مفت
دیگر تمام چارجز	موجودہ SOC کے مطابق	
اضافی مفت خدمات	PKR 50,000/- کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر، چیک بک، پے آرڈر جاری کرنے اور ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے کوئی چارج نہیں ہو گا۔	

نوٹ:

منتخب برانچ ہفتہ کو جزوی بینکاری کی سہولت مہیا کریں گی۔

محدود بینکنگ سہولیات کے لئے مخصوص برانچیں روز ہفتہ کھلی ہو گی۔

تمام حکومتی ایکسائز اور اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکسز وغیرہ اور کوریپونڈنٹ بینک کے چارجز (اگر ہوں) کسٹمر کے ذمہ ہیں، اور ہمارے چارجز کے علاوہ وصول کئے جائینگے۔

سیونگ پرافٹ کا حساب کتاب:

سیونگ میں (ملکی کرنسی یا غیر ملکی کرنسی) نفع کا حساب کتاب کسٹمر کے ماہانہ اوسط بیلنس پر ہو گا۔
متوقع پرافٹ ریٹ ہمیشہ سالانہ بنیادوں پر دہرائے جائینگے۔

نفع کے حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

نفع = ماہانہ اوسط بیلنس * اعلان کردہ پرافٹ ریٹ / 365 * (ایام کی تعداد)

نوٹ:

ترتیب کے ساتھ پروڈکٹ منافع کی تفصیل کے لیے براہ مہربانی صفحہ نمبر ۲۳ ملاحظہ کریں۔

منافع کی شرح کے حساب کے لیے صفحہ ۲۷ ملاحظہ کریں۔

موجودہ SOC چارجز برانچ یا ڈیجیٹل کے ذریعے کھولے گئے اکاؤنٹس پر لاگو ہوں گے۔

کیش منیجمنٹ سروسز

1. الیکٹرونک چینلز:

a.	الیکٹرونک ادائیگیاں اور اطلاع
b.	وصولیاں
a.	i) کارپوریٹ چیک
	ii) پے آرڈر / بینکر چیک
	iii) ڈیمانڈ ڈرافٹ
b.	i) چیکس اور ڈیمانڈ ڈرافٹ (مقامی کرنسی میں)
	ii) چیکس اور ڈیمانڈ ڈرافٹ (غیر ملکی کرنسی میں)
	وصولیاں

نوٹ:

- کلکیشن ایجنٹ کے اصل چار جز وصول کئے جائیں گے۔
- آؤٹ آف پاکٹ تمام اخراجات جیسے سوئفٹ / کوریئر / فیکس وغیرہ مندرجہ بالا چار جز کے علاوہ وصول کئے جائیں گے۔
- بینک سال میں دو مرتبہ مندرجہ بالا چار جز کو تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تمام گورنمنٹ چار جز اور اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکسز اور کوریئر سپروائزر بینک کے چار جز (اگر ہوں) کسٹمر کے کھاتہ سے ہیں اور مندرجہ بالا چار جز کے علاوہ وصول کئے جائیں گے۔
- مندرجہ بالا اقسام میں ذکر کردہ چار جز سے تمام استثناء کسٹمر کے ساتھ معاہدہ اور بینک کی انتظامیہ کی منظوری کے مطابق ہوں گے۔ کسٹمر کے لئے فنانشل انسٹرومنٹس اور ٹرانزیکشنز کا تخمینہ لگانا جو کہ کیش منیجمنٹ سروس کو حاصل کر رہے ہوں، اسکو کیس ٹو کیس کی بنیاد پر طے کیا جائے گا جو کہ انکے لئے ہمارے اسپیشل / اسٹرکچر یا اسٹینڈرڈ ایجنٹ کی ریس انکی ٹرانزیکشن کی تعداد اور سیونگ اکاؤنٹ بیلنس (مضاربہ) کی بنیاد پر ہوگا۔
- کیش منیجمنٹ پراڈکٹس (کلکیشن اور ادائیگی) کے سروس چار جز / فیس، ہر کیس کی الگ طے کی جائے گی، جو کہ کسٹمر اور بینک کے درمیان کئے گئے معاہدے کے مطابق ہوں گے۔

ڈیجیٹل بینکنگ کی خدمات

1. اے ٹی ایم:

a. ATM کے ذریعہ حصول نقد کی فیس		
(i)	اپنے بینک کے ATM پر	کچھ نہیں
(ii)	دیگر اے ٹی ایم سے رقم نکالوانا (پاکستان کے اندر)	23.44/- روپے
(iii)	اے ٹی ایم - بین الاقوامی ٹرانزیکشن (پاکستان سے باہر)	4.25 فیصد یا 350 روپے جو بھی زیادہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ = 3,000 روپے *
(iv)	آف-اس اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کے لئے رسید پر بینک	2.5/- روپے فی ٹرانزیکشن
(v)	کارڈ کے بغیر ٹرانزیکشن	فیصل بینک کے کسٹمرز کے لیے 15 روپے اور دیگر کے لیے 30 روپے
(vi)	آن-اس اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کے لئے رسید پر بینک	2.0/- روپے فی ٹرانزیکشن
(vii)	کارڈ کے بغیر حصول نقد (بائیومیٹرک چارجز)	15/- روپے فی ٹرانزیکشن
(viii)	اے ٹی ایم - بین الاقوامی ٹرانزیکشن (پاکستان کے اندر)	کم از کم روپے 600 یا 4% زیادہ سے زیادہ PKR 3,000 تک، جو بھی زیادہ ہو۔ * بین الاقوامی ویزا کارڈ ہولڈرز فیصل بینک کے اے ٹی ایم سے لین دین کر سکتے ہیں۔
(ix)	بینکس انکوائری انٹرنیشنل (پاکستان کے اندر)	225/- روپے
b. بذریعہ ATM بینکس انکوائری فیس		
(i)	اپنے بینک کے ATM پر	کچھ نہیں
(ii)	دیگر بینک اے ٹی ایم سے بینکس انکوائری (بغیر رسید)	6/- روپے
(iii)	دیگر بینک کے اے ٹی ایم سے بینکس انکوائری (بشمول رسید)	9/- روپے
(iv)	دیگر تمام ATM پر (پاکستان سے باہر)	مبلغ = 250 روپے
c. بذریعہ ATM رقم منتقل کرنے کی فیس		
(i)	بینک میں موجود اکاؤنٹ میں	کچھ نہیں
(ii)	IBFT/ 1 IBFT Insta کے چارجز 25,000 روپے تک۔ (ماہانہ حد) * 25,000 روپے سے اوپر (ماہانہ حد) * نوٹ: 25,000 ڈیجیٹل چینل پر IBFT کی مجموعی حد ہے	مفت ٹرانزیکشن کی رقم 0.1% فیصد یا 200 روپے، جو بھی کم ہو
d	بذریعہ ATM یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی کی فیس	مفت
e	کیمرہ ریکارڈنگ یا فونوز کے ذریعہ نگرانی کا حصول	متنازعہ رقم 5% فیصد یا مبلغ = 1000 روپے جو بھی زیادہ ہو

ڈیجیٹل بینکنگ کی خدمات

۲۔ ڈیجیٹل کیوسک (نقدی قبولیت)

(i)	نقد قبولیت فیس (فیصل بینک اکاؤنٹ)	مفت
(ii)	نقد قبولیت فیس (دیگر بینک اکاؤنٹ)	10K تک = 100 روپے 250K-10K = 150 روپے 500K-250K = 500 روپے 500K سے زیادہ = 1000 روپے یا 0.1% جو بھی زیادہ ہو۔ * منتخب FBL برانچوں میں CDM کے لانچ اور تعیناتی سے مشروط

* حکومت ایڈوانس ہولڈنگ ٹیکس (جو کہ فائلز کے لئے 1% اور نان فائلز کے لئے 3% ہے) پاکستان سے باہر فنڈز منتقل کئے جانے / نکالے جانے والی ٹرانزیکشنز پر لاگو ہو گا۔

۳۔ انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ

الف	فنڈز ٹرانسفر فیس	
(i)	IBFT/1 IBFT Insta کے چارجز	ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.1% فیصد یا 200 روپے، جو بھی زیادہ ہو
ب	سبسکرپشن فیس (بطور ایڈوانس)	
(i)	سالانہ اختیار	مفت
(ii)	ماہانہ اختیار	مفت
ج	QR سبسکرپشن فیس	مفت
د	راست سروسز	مفت

4. SMS الرٹ: (برانچ بینکنگ)

	ممبر شپ فیس (پیٹنگی)	
(i)	سالانہ آپشن	مبلغ = /1,475 روپے
(ii)	ماہانہ آپشن	مبلغ = /145 روپے
(iii)	کلیئرنگ چیک کے SMS کی فیس	-/0.50 روپے فی SMS

5. ای-اسٹیٹمنٹ:

(i)	(سہولت کے) حصول کی فیس	مفت
-----	------------------------	-----

ڈیجیٹل بینکنگ کی خدمات

6. ورچوئل کارڈ

(a)	ون ٹائیم کارڈ کے لئے اجراء کی فیس:	کارڈ لمٹ کے مطابق کارڈ اجراء فیس: مبلغ 150 روپے 3,000 روپے لمٹ تک مبلغ 250 روپے 5,000 روپے لمٹ تک مبلغ 400 روپے 20,000 روپے لمٹ تک مبلغ 500 روپے 50,000 روپے لمٹ تک مبلغ 650 روپے 100,000 روپے لمٹ تک
(b)	ری لوڈیبل کارڈ کے اجراء کی فیس	کارڈ لمٹ کے مطابق کارڈ اجراء فیس: مبلغ 150 روپے 3,000 روپے لمٹ تک مبلغ 250 روپے 5,000 روپے لمٹ تک مبلغ 400 روپے 20,000 روپے لمٹ تک مبلغ 500 روپے 50,000 روپے لمٹ تک مبلغ 600 روپے 100,000 روپے لمٹ تک
(c)	FX کنورجن چارجز	ٹرانزیکشن کی رقم کے 3.5% تک بشمول کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بمطابق ماسٹر کارڈ*

* حکومت ایڈوانس ہولڈنگ ٹیکس (جو کہ فائلز کے لئے 1% اور نان فائلز کے لئے 3% ہے) پاکستان سے باہر فنڈز منتقل کئے جانے / نکالے جانے والی ٹرانزیکشنز پر لاگو ہو گا۔

7. پری پیڈ کارڈ

(i)	سالانہ فیس	مبلغ = 750 روپے
(ii)	کارڈ کی تبدیلی کی فیس	مبلغ = 500 روپے
(iii)	دوبارہ لوڈ کرنے کی فیس	مفت

8. فیصل اسلامک وائٹس ایپ بینکنگ

(i)	وائٹس ایپ بینکنگ	مفت
-----	------------------	-----

ڈیجیٹل بینکنگ کی خدمات

9. کوئٹہ سینٹر:

(a)	ڈرافٹ اور پے آرڈرز کا اجراء (مقامی اور غیر ملکی کرنسی) بذریعہ ڈیمانڈ ڈرافٹ (مقامی کرنسی) بذریعہ ڈیمانڈ ڈرافٹ (غیر ملکی کرنسی)	جنرل بینکنگ کے چار جز (صفحہ نمبر ۱۹) کے مطابق
(b)	بیلنس کی تصدیق / ریفرنسز لیٹرز۔ پرافٹ پیمنٹ کا اجراء	فی سرٹیفکیٹ = 125 روپے
(c)	اسٹیٹمنٹ کی نقل (Duplicate) کا اجراء	مبلغ = 35 روپے فی نقل (Duplicate)*
(d)	چیک کی اسٹاپ پیمنٹ گمشدہ چیک بک کی اسٹاپ پیمنٹ	جنرل بینکنگ کے چار جز (صفحہ نمبر ۲۱) کے مطابق
(e)	یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی	مبلغ = 15 روپے فی ٹرانزیکشن
(f)	کال سینٹر کے ذریعے پے آرڈر کا اجراء	150/- روپے (Flat)

نوٹ: تمام حکومتی ایکسائز اور اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکسز وغیرہ اور کوریسپونڈنٹ بینک کے چار جز (اگر ہوں) کسٹمر کے ذمہ ہیں اور بینک چار جز کے علاوہ وصول کئے جائیں گے۔

* فیصل اسلامک کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس میں گزشتہ ماہ کے اوسطاً ماہانہ بیلینس - 50,000 روپے یا اس سے زائد رقم رکھنے والے کسٹمر پر کچھ چار جز نہیں ہیں۔

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

1. ڈیٹ کارڈز

ممبر شپ کی ٹیکنیکی فیس

a. پرائمری کارڈ

(i)	ویزا کلاسک	مبلغ -/2,000 روپے
(ii)	ویزا گولڈ	مبلغ -/2,950 روپے
(iii)	ویزا پلانٹینم	مبلغ -/6,000 روپے
(iv)	یونین پی کلاسک	مبلغ -/1,350 روپے
(v)	یونین پی گولڈ	مبلغ -/1,900 روپے
(vi)	پے پاک (UPI) گولڈ لو	مبلغ -/1,800 روپے
(vii)	ماسٹر کارڈ کلاسک	مبلغ -/1,900 روپے
(viii)	ماسٹر کارڈ گولڈ	مبلغ -/2,500 روپے
(ix)	پریورٹی پلانٹینم ڈیٹ کارڈ	مبلغ -/6,000 روپے
(x)	ورلڈ ڈیٹ کارڈ	مبلغ -/12,000 روپے
(xi)	ایف بی ایل بزنس ڈیٹ کارڈ	مبلغ -/8,000 روپے
(xii)	ایف بی ایل بزنس ڈیٹ کارڈ ورلڈ	مبلغ -/12,000 روپے
(xiii)	اٹل پلانٹینم	مبلغ -/6,000 روپے
(xiv)	اٹل گولڈ	مبلغ -/2,500 روپے
(xv)	ایف بی ایل پلانٹینم ڈیٹ کارڈ	مبلغ -/7,500 روپے

b. ضمنی کارڈ

(i)	ویزا پلانٹینم	مبلغ -/5,760 روپے
(ii)	گولڈ لو (UPI) پے پاک	مبلغ -/1,350 روپے
(iii)	ماسٹر کارڈ کلاسک	مبلغ -/950 روپے
(iv)	ماسٹر کارڈ گولڈ	مبلغ -/1,450 روپے
(v)	پریورٹی پلانٹینم ڈیٹ کارڈ	مبلغ -/5,500 روپے
(vi)	ورلڈ ڈیٹ کارڈ	مبلغ -/8,000 روپے
(vi)	پلانٹینم ڈیٹ کارڈ	مبلغ -/6,500 روپے
(vii)	اٹل پلانٹینم	مبلغ -/5,550 روپے
(viii)	اٹل گولڈ	مبلغ -/1,450 روپے

c. کارڈ کی تبدیلی کی فیس

(i)	ویزا کلاسک	مبلغ -/1,100 روپے
(ii)	ویزا گولڈ	مبلغ -/1,100 روپے
(iii)	ویزا پلانٹینم	مبلغ -/1,350 روپے
(iv)	یونین پی کلاسک	مبلغ -/600 روپے
(v)	یونین پی گولڈ	مبلغ -/1,100 روپے
(vi)	گولڈ لو (UPI) پے پاک	مبلغ -/900 روپے

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

(vii)	ماسٹر کارڈ کلاسک	مبلغ -/1,200 روپے
(viii)	ماسٹر کارڈ گولڈ	مبلغ -/1,200 روپے
(ix)	پریورٹی پلانٹیم ڈیبٹ کارڈ	مبلغ -/1,550 روپے
(x)	ورلڈ ڈیبٹ کارڈ	مبلغ -/2,450 روپے
(xi)	ایف بی ایل بزنس ڈیبٹ کارڈ	مبلغ -/3,000 روپے
(xii)	ایف بی ایل بزنس ڈیبٹ کارڈ ورلڈ	مبلغ -/3,000 روپے
(xiii)	اٹل پلانٹیم	مبلغ -/1,550 روپے
(xiv)	اٹل گولڈ	مبلغ -/1,200 روپے
(xv)	ایف بی ایل پلانٹیم ڈیبٹ کارڈ	مبلغ -/6,500 روپے
d.	دیگر ڈیبٹ کارڈ کی فیس	
(i)	ٹرانزیکشن کے دوبارہ حصول کی فیس	مبلغ =/1,200 روپے تک
(ii)	POS ٹرانزیکشن فیس - (بین الاقوامی تاجروں، ایئر لائنز اور پاکستانی روپے کے علاوہ ٹرانزیکشن کی ادائیگی دوسری کرنسی سے کی گئی ہو)	4 فیصد یا =/300 روپے جو بھی زیادہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ =/3,000 روپے*
(iii)	(e-Commerce) ٹرانزیکشن فیس - (بین الاقوامی تاجروں، ایئر لائنز اور پاکستانی روپے کے علاوہ ٹرانزیکشن کی ادائیگی دوسری کرنسی سے کی گئی ہو)	4 فیصد یا =/300 روپے جو بھی زیادہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ =/3,000 روپے*
(iv)	آر بی ٹیشن "ٹاشلی" چارجز	روپے کے مساوی USD -/580 فی کیس

براہ مہربانی نوٹ کریں کہ درج ذیل سروس چارجز کا اطلاق ان پروڈکٹس کی مع تمام مجاز منظوری کے بعد متعارف ہونے پر منحصر ہے۔

2. بے پاک کارڈ

(a)	Paypak کارڈ کلاسک سالانہ فیس	مبلغ =/550 روپے
(b)	Paypak کارڈ ریلیئمٹ فیس	مبلغ =/300 روپے

3. فیصل اسلامک پرسنل فنانس:

(a)	پراسیڈنگ فیس	-/7000 روپے بشمول FED
(b)	چیریٹی کی رقم (تاخیر سے ادائیگی)	ہر چھوٹی ہوئی قسط پر -/500 روپے

4. فیصل سولر سلوشنز:

(a)	پراسیڈنگ فیس	-/6000 روپے بشمول FED
(b)	بکافل چارجز	اصل خرچہ
(b)	چیریٹی کی رقم (تاخیر سے ادائیگی)	ہر چھوٹی ہوئی قسط پر -/500 روپے
(b)	ادائیگی سے پہلے جرمانہ - مکمل تصفیہ	بٹایار رقم پر 5%

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

5. فیصل ہوم فنانس:

(a)	دستاویز کی تیار، اسٹامپ ڈیوٹی اور حکومتی لیویز	اصل خرچ
(b)	بیرونی ایجنسی فیس / جائیداد کا تخمینہ	
	(i) بلڈر (تخمینہ)	9,000/- روپے
	(ii) خریدار / ری فنانس (تخمینہ)	9,000/- روپے
	(iii) آمدنی کا اندازہ	8,000/- روپے
	(iv) قانونی چارہ جوئی کے چارجز	8,000/- روپے
(c)	ناقابل واپسی پروسیجرنگ / انہینسنسٹ فیس	معیاری رہائش: روپے -/10,000 روشن اپنا گھر: روپے -/4,000 16 فیصد FED مندرجہ بالا چار جز پر قابل اطلاق ہوگا۔
(d)	چیریٹی کی رقم (تاخیر سے ادائیگی)	مبلغ = 1,000/- روپے فی مہینہ
(e)	قبل از وقت ادائیگی منافع	معیاری رہائش: O/S پر نہیں کا 5% روشن اپنا گھر: پہلے سال کے لیے 1% چارج کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی چارج نہیں لگائے جائیں گے۔
(f)	جزوی ادائیگی منافع	معیاری رہائش: 1-5 سال تک جزوی ادائیگی کی رقم پر 5% 6 سال اور اس سے آگے جزوی ادائیگی کی رقم پر 3% روشن اپنا گھر: پہلے سال کے لیے 3% چارج کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی چارج نہیں لگائے جائیں گے۔
(g)	بیلون ادائیگی کا اختیار	بقایا رقم کے 20% کی زیادہ سے زیادہ ادائیگی کے ساتھ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ دو کی اجازت ہے۔ تقسیم کے پہلے سال کے دوران 5% چارجز کے بغیر بیلون کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی۔
(h)	فنانسنگ ٹیز میں تبدیلی کی درخواست	10,000/- روپے
(i)	بقایا رقم کا خط	پہلی دفعہ کچھ نہیں۔ اسکے بعد اجراء پر مبلغ = 600/- روپے
(j)	چیک ریٹرن کے چارجز	جزل مینٹنگ کے چارجز کے مطابق
(k)	قسط کی وصولی کے چارجز	روپے فی چکر = 575/- مبلغ

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

6. فیصل کارفنانس

(a)	ناقابل واپسی پروسیسنگ فیس	اسٹینڈرڈ کارفنانس: مبلغ/=8,000 روپے فی گاڑی روشن اپنی کار: کوئی چارجز نہیں
(b)	پرچیز آرڈر (خریداری کا حکم نامہ) کا دوبارہ اجراء	روپے/=1,200 مبلغ
(c)	قبل از وقت ادائیگی منافع	اسٹینڈرڈ کارفنانس: 1-2 سال: 8% 3-7 سال: 7% (بقایا رقم پر) روشن اپنی کار: کوئی چارجز نہیں
(d)	جزوی ادائیگی منافع	اسٹینڈرڈ کارفنانس: 1-2 سال: 7% 3-7 سال: 6% (بقایا رقم پر) روشن اپنی کار: کوئی چارجز نہیں
(e)	چیک ریٹرن کے چارجز	جزل مینٹنگ کے چارجز کے مطابق
(f)	چیرٹی کی رقم (تاخیر سے ادائیگی)	=1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی
(g)	تخمینہ لگانے کے چارجز	اصل خرچہ
(h)	آمدنی کا اندازہ	اصل خرچہ
(j)	وہیکل کو دوبارہ قبضہ میں لینے کا عمل	اصل خرچہ - زیادہ سے زیادہ مبلغ/=64,000 روپے تک (جو کہ دوبارہ قبضہ میں لینے والی ایجنسی کو ادا کردہ چارجز کی بنیاد پر ہوگا)۔
(k)	دوبارہ قبضہ میں لی جانے والی وہیکل کی پارکنگ / گودام کے (ویئر ہاؤس) چارجز	روپے/=3,500 مبلغ
(l)	دوبارہ قبضہ میں لی گئی وہیکل کی قیمت کا تخمینہ لگانے کے چارجز	اصل خرچہ
(m)	دوبارہ قبضہ میں لی گئی وہیکل کی ٹرانسپورٹیشن کے چارجز (گودام تک)	اصل خرچہ
(n)	سرکاری عائد شدہ ٹیکسز	اصل خرچہ
(o)	آٹو NOC کا دوبارہ اجراء	مبلغ/=1,500 روپے
(p)	اپ فرنٹ ٹریڈر مینجمنٹ فیس (ایک دفعہ)	-/22,000 روپے
(q)	ماہانہ ٹریڈر مینجمنٹ فیس	-/1,500 روپے

اوپر دیئے گئے چارجز ایف ای ڈی اور پروو نفل سیلز ٹیکس کے علاوہ ہیں

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

7. محفوظ آئی پی ایف (اسلامک پرسنل فنانس)

(a)	ناقابل واپسی پروسیڈنگ فیس	/8,000 روپے + FED / پروو نفل سیز ٹیکس کے ساتھ
(b)	چیرٹی کی رقم (تاخیر سے ادائیگی)	/1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی
(c)	تخمینہ لگانے کے چارجز	اصل خرچہ
(d)	آمدنی کا اندازہ	اصل خرچہ
(e)	اپ فرنٹ ٹریڈر فیس	/22,000 روپے + FED / پروو نفل سیز ٹیکس کے ساتھ
(f)	ماہانہ ٹریڈر مینجمنٹ فیس	/1,500 روپے + FED / پروو نفل سیز ٹیکس کے ساتھ

اوپر دیئے گئے چارجز ایف ای ڈی اور پروو نفل سیز ٹیکس کے علاوہ ہیں

7. قانونی چارجز (آٹو اور ہوم فنانس)

پینک کی جانب سے کئے گئے کیسیز یا پینک کے خلاف کئے گئے کیسیز (کسٹمر) کیسیز کی تیاری ہائی کورٹ کے کیسیز "فی" قانونی نوٹس قانونی رائے / کسی قانونی نوٹس کا جواب نیلام کا اقدام، قانونی نوٹسز (b-2-15) اعلان کی ڈرافٹنگ	اداشدہ اصل اخراجات کی بنیاد پر ہونگے۔
---	--

8. FIO 2001 کے تحت بینکنگ کورٹ سے وصولی کے مقدمہ کے چارجز:

اداشدہ اصل اخراجات کی بنیاد پر ہونگے۔	-/1,000,000 روپے تک رقم کا مقدمہ -/1,000,000 سے زیادہ اور -/2,000,000 سے اوپر نہ ہو -/2,000,000 سے زیادہ اور -/5,000,000 سے اوپر نہ ہو -/5,000,000 سے زیادہ اور -/10,000,000 سے اوپر نہ ہو -/10,000,000 سے زیادہ اور -/30,000,000 سے اوپر نہ ہو -/30,000,000 سے زیادہ کورٹ فیس
--	--

9. فیصل تکمیل

پراسیڈنگ فیس	FED+4000 روپے
قبل از وقت سیٹلمنٹ منافع	نہیں
چیرٹی (تاخیر سے ادائیگی)	نہیں

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

فیصل تعبیر 10.

الف) دستاویزات، اسٹامپ ڈیوٹی اور حکومتی محصولات	اصل کے مطابق
ب) بیرونی ایجنسی فیس / جائیداد کا تخمینہ	اصل کے مطابق
(i) بلڈر، کنسٹرکشن فنانس (اپریزل)	اصل کے مطابق
(ii) خریدار، خریداری (اپریزل)	اصل کے مطابق
(iii) آمدنی کا تخمینہ	اصل کے مطابق
(iv) قانونی اخراجات	اصل کے مطابق
ج) ناقابل واپسی پروسیسنگ فیس	معیاری رہائش: روپے 6000/- روشن اپنا گھر: روپے 4000/- 16 فیصد FED مندرجہ بالا چار جز پر قابل اطلاق ہو گا۔
د) عطیہ جات کی رقم (تاخیری ادائیگی)	1000/- روپے ماہانہ
ر) قبل از وقت ادائیگی منافع	لوئی چار جز ہیں
ز) جزوی سیٹلمنٹ منافع	کوئی چار جز نہیں
س) بقایہ رقم کا لیئر	پہلی بار اجراء پر کوئی چار جز نہیں، بعد ازاں 600/- روپے
ش) چیک واپسی کے چار جز	جزل بینکنگ چار جز کے مطابق
ص) قسط وصول کرنے کے چار جز	ہر وزٹ پر 475/- روپے

نوٹ: تمام حکومتی ایکسائز اور اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکسز وغیرہ اور کورسپونڈنڈ بینک چار جز (اگر ہوں) کسٹمر کے ذمہ ہیں اور بینک چار جز کے علاوہ وصول کئے جائینگے۔

نور کارڈ 11.

a.	سالانہ فیس
(i)	پرائمری کارڈز
ویلوٹی	5,000/- روپے (500 روپے کی رعایتی فیس خرچ کی بنیاد پر واپسی کے تحت چارج ہوگی)
بلیز / گولڈ	9,000/- روپے (750 روپے کی رعایتی فیس خرچ کی بنیاد پر واپسی کے تحت چارج ہوگی)

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

ٹائٹنیم	11,000/- روپے (750 روپے کی رعایتی فیس خرچ کی بنیاد پر واپسی کے تحت چارج ہوگی)
پلاٹینم	15,000/- روپے (1,500 روپے کی رعایتی فیس 12 ماہ میں 500,000 روپے خرچ کی بنیاد پر ہے)
ورلڈ	20,000/- روپے (1,500 روپے کی رعایتی فیس 12 ماہ میں 1,000,000 روپے خرچ کی بنیاد پر ہے)
(ii)	سپلیمنٹری کارڈز
	ویلوٹی
	1,400/- روپے
	1,700/- روپے
	3,500/- روپے
	ٹائٹنیم
	پلاٹینم
	4,000/- روپے
	ورلڈ
	8,000/- روپے
b.	دیگر چارجز
(i)	موسومہ ادائیگی
	تاخیر کی صورت میں فوری طور پر - 2,000/- روپے
(ii)	ڈائل اسے ڈرافٹ / بے آرڈر
	900/- روپے (ہر مرتبہ)
(iii)	کارڈ تبدیلی کی فیس
	1000/- روپے
(iv)	چیک واپسی
	1000/- روپے
(v)	سیلز / سنسٹیوٹ وائچر کی کاپی
	2,000/- روپے تک
(vi)	انسٹالمنٹ پلان، فکس پرافٹ ریٹ
	بک کی گئی رقم پر ٹوٹل موسومہ منافع سے ۲٪ منافع فی ماہ وصول کیا جائے گا
(vii)	انسٹالمنٹ پلان پر بیلنس ٹرانسفر (فکس مدت) فکس پرافٹ ریٹ
	بک کی گئی رقم پر ٹوٹل موسومہ منافع سے ۲٪ منافع فی ماہ وصول کیا جائے گا
(viii)	انسٹالمنٹ پلان پر بیلنس ٹرانسفر (آزاد مدت) فکس پرافٹ ریٹ
	بک کی گئی رقم پر ٹوٹل موسومہ منافع سے ۲.۷٪ منافع فی ماہ وصول کیا جائے گا
(ix)	بیلنس ٹرانسفر: روایتی کارڈ کارڈ پر کسٹمر کو یہ سہولت ایک بار حاصل ہو سکتی ہے (صرف پرنسپل رقم)
(x)	انسٹالمنٹ پلان کی ٹوٹل بقایہ رقم، فکس پرافٹ ریٹ
	بک کردہ رقم پر 2 فیصد ماہانہ
(xi)	انسٹالمنٹ پلان کے پریسنگ چارجز
	800/- روپے (ہر درخواست پر)
(xii)	ایس ایم ایس الرٹس
	جو ایس ایم ایس الرٹ چارجز الیکٹرانک بینکنگ سروس سیکشن میں دیئے گئے ہیں۔

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

(xiii)	پے آرڈر، ڈاکل اے ڈرافٹ کی منسوخی کے چارجز	-/600 روپے
(xiv)	آر بیٹریشن چارجز	متنازعہ ٹرانزیکشن کے لیے ماسٹر کارڈ کے ثالثی چارجز- 500 امریکی ڈالر یا مساوی
(xv)	FX کنورشن چارجز	ٹرانزیکشن کی رقم کے 4 فیصد تک بشمول ماسٹر کارڈ کے مطابق اس بارڈر ٹرانزیکشن فیس
(xvi)	ودہولڈنگ ٹیکس	رقم نکالنے کی روزانہ حد -/50,000 سے بڑھ جانے پر نافذ شرح (ایف بی آر سے مشروط)
(xvii)	کارڈ کی تبدیلی / اپ گریڈ فیس	تمام کارڈز پر -/900 روپے
(xviii)	ایئر لائن ٹرانزیکشنز اقساط پر (3 مہینے کی مدت کے لئے)	موسمہ منافع (پہلی قسط پر واجب الادہ) بک رقم کا 3% فیصد
(xix)	تعلیمی فیس کی ادائیگی اقساط پر (سہ ماہی مدت)	بنک کی رقم موسمہ منافع (پہلی قسط پر قابل ادا) 5,000 سے 25,000 روپے -/600 روپے 25,001 سے 50,000 روپے -/1,500 روپے 50,001 سے 75,000 روپے -/2,500 روپے 75,001 سے زائد بک شدہ رقم کا 4%
c.	چپ مینٹنس فیس	
i	پرائمری کارڈ	سالانہ -/1100 روپے، تمام پرائمری کارڈز پر لاگو
ii	سپلیمنٹری کارڈز	سالانہ -/700 روپے، تمام سپلیمنٹری کارڈز پر لاگو

صارف فنانسنگ پروڈکٹس

d.	دیگر چارجز	
1 بل کے ذریعے کارڈ کی ادائیگی کے چارجز بل کی رقم 10,000 روپے تک 10 چارجز 10,000 روپے سے 25 روپے 100,000 کے درمیان 50 روپے 100,001 روپے سے 100 روپے 250,000 کے درمیان 200 روپے 250,000 روپے سے 1,000,000 کے درمیان 1,000,000 روپے سے اوپر 200 روپے * یہ چارج بینک کے اصل اخراجات کی نمائندگی کرتے ہیں۔		
-/3000 روپے پرائمری اور سلیمنٹری دونوں کے لیے ایک ماہ میں مفت دوروں کی کل تعداد 4 ہوگی۔ چار جز ایک مہینے میں 5 ویں دورے کے بعد سے لاگو ہوں گے اگر اکاؤنٹ کی سطح پر مجموعی اخراجات ایک ماہ میں 50,000 روپے سے کم ہیں۔ اگر اکاؤنٹ لیول کا مشترکہ خرچ 50,000 روپے یا اس سے زیادہ ہے، پھر 2 اضافی دورے مفت دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد ہر اضافی دورے کے حساب سے فیس وصول کی جائے گی۔ * گالف کلب و قفاوق تہذیب ہو سکتے ہیں اور اس کے مطابق ان کے T&Cs * کلب کی پیشکش ایک محدود مدت کی پیشکش ہے، اور بینک کی صوابدید پر پیشگی اطلاع کے ساتھ اسے منسوخ یا تبدیل کیا جاسکتا ہے۔	گالف وزٹ (گرین فیس) چارجز [صرف ورلڈ کارڈز]	

نوٹ:

- تمام گورنمنٹ ایکسائیز اور اسٹامپ ڈیوٹیز، ٹیکسز وغیرہ اور متعلقہ بینک چارجز (اگر کوئی ہو) کسٹمر کے اکاؤنٹ کے لیے ہیں اور یہ بینک کے چارجز کے علاوہ ہیں۔
- تمام گورنمنٹ ایکسائیز اور اسٹامپ ڈیوٹیز، ٹیکسز FED وغیرہ ناقابل واپسی ہیں۔

فنانسنگ

1. انویسٹمنٹ پر نفع / ریٹرن کے علاوہ قابل وصولی چارجز:

(a)	پروجیکٹ فنانسنگ (قابل امکان ہونا) کو جانچنے کی فیس اور / یا اینجینئرنگ فیس اور / یا قانونی فیس اور / یا پروجیکٹ مینجمنٹ فیس	طے شدہ شرائط کے مطابق
(b)	متفرق چارجز جبکہ کسٹمر نے درخواست کی ہو (مثلاً ایسے ٹریڈ یا ایک سیکیورٹی ایجنٹ)	اصل خرچہ
(c)	رہن کے عوض ڈیلیوری آرڈر کا اجراء	مبلغ = 500 روپے ہر رقم پر یکساں چارجز، فی ڈیلیوری آرڈر
(d)	بینک کے پاس موجود سیکیورٹیز پر NOC کے اجراء کے لئے نوٹ: اس چارج کی وصولی کو چھوڑ دیا جائیگا۔ (i) کورپوریٹ کلائنٹس کے لئے جو کہ 150 ملین سے زائد کی کل فیسیلیٹیز (سہولیات) کے حامل ہوں۔ (ii) وہ کلائنٹس جنکو کنسورٹیم فنانسنگ کے تحت فیسیلیٹیز کی اجازت ہو۔	مبلغ = 5,000 روپے ہر رقم پر یکساں چارجز ہر NOC کی درخواست پر جو دوسرے بینک کے حق میں ہو
(e)	حفاظت سے رکھنے کے علاوہ مقدم (Muccadam) کی خدمات	اصل خرچہ
(f)	دیگر ضمنی اخراجات (مثلاً انشورنس پر ٹیکس، قانونی چارجز وغیرہ)	اصل خرچہ
(g)	کریڈٹ کے کاغذات تیار کرنے کے سروس چارجز مثلاً اسٹامپ ڈیوٹی وغیرہ	اصل خرچہ
(h)	میںچورڈ کوپن کے لئے کولائٹر الا نڈ اسلامک سیکیورٹیز کے پروسیسنگ چارجز اور کسٹمر کی درخواست پر انکی انکمیسٹنٹ	مبلغ = 1,200 روپے فی کوپن
(i)	سیکیورٹیز رجسٹر اور ایکس چینج کمیشن پاکستان کے پاس چارج (Charge) کی رجسٹریشن	مبلغ = 600 روپے ہر رقم پر یکساں چارجز بشمول اصل خرچہ
(j)	کسٹمر کی طرف سے حاصل کی گئی کریڈٹ رپورٹ	اصل خرچہ
(k)	سرچ رپورٹ کے چارجز	اصل خرچہ
(l)	قدرو قیمت کا تخمینہ / گرنٹ ایسٹس کی جانچ پڑتال کے چارجز	اصل خرچہ

2. IPS اکاؤنٹس پر کسٹوڈیل (حفاظتی تحویل) اور ٹرانزیکشن سروس چارجز:

(i)	اجارہ صکوک (SUKUK) ٹرانزیکشن چارجز	مبلغ = 500 روپے فی ٹرانزیکشن اور قابل اطلاق FED (Transfere/Purchase/Sale)
(ii)	صکوک کوپن کی ادائیگی	0.025 فیصد شتاہی، فیس ویلیو پر یا 1,000 روپے ماہانہ جو بھی زیادہ ہو (اور قابل اطلاق FED)
(iii)	سالانہ اکاؤنٹ کے سروس چارجز	مبلغ = 1,000 روپے (سالانہ) اور قابل اطلاق FED
(iv)	IPS اسٹیٹمنٹ کی نقل (Duplicate)	مبلغ = 35 روپے (FED کے ساتھ)

فنانسنگ

3. فلیٹ (Fleet) فنانس

(i)	پروسیسنگ فیس	فلیٹ (Fleet) فنانسنگ فیس کو کیس ٹو کیس کی بنیاد پر گاہک کے ساتھ طے کیا جائے گا۔
(ii)	چیریٹی کی رقم (تاخیر سے ادائیگی)	مبلغ -/100 روپے فی دن کے

نوٹ: مذکورہ بالا تمام چار جز فلیٹ کے علاوہ ہیں

نوٹ: کم ترین ریٹس / چار جز / استشنا، کورپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ طے کیے جاسکیں گے۔
تمام حکومتی ایکسائز اور اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکسز وغیرہ اور کورسپونڈنٹ بینک چار جز (اگر ہوں) کسٹمر کے ذمہ ہیں اور بینک چار جز کے علاوہ وصول کئے جائیں گے۔

4. CBSME فنانسنگ

(i)	کریڈٹ پروپوزل پروسیسنگ، چار جز کے شیڈول میں ساخت اور مشاورتی فیس سی بی ایس ایم ای فنانسنگ	ایگری / ایگری CBSME ایکسپوزر چار جز 5M روپے تک -/2,500 روپے 5-10M روپے -/5,000 روپے 10-25M روپے -/12,500 روپے 25-50M روپے -/25,000 روپے 50M+ روپے -/37,500 روپے CBSME ایکسپوزر چار جز 25M روپے تک -/37,500 روپے 25-150M روپے -/225,000 روپے 150-250M روپے -/375,000 روپے 250M+ روپے -/750,000 روپے کارپوریٹ ایکسپوزر چار جز 1B روپے تک -/37,500 روپے 1B روپے سے زیادہ فنانسنگ 1,500,000 روپے
-----	---	--

- نوٹ: (i) یہ چار جز ان صارفین پر لاگو نہیں ہوں گے جو صرف مراثی / مسامہ سہولیات حاصل کرتے ہیں۔
(ii) تجدید کی صورت میں، فیس صرف قلیل مدتی سہولیات پر لاگو ہوگی (فنڈڈ / نان فنڈڈ)۔ طویل مدتی سہولیات کے جائزے / تجدید پر کوئی چار جز لاگو نہیں ہوں گے۔
(iii) مقالے معیاری چار جز ہیں اور اتھارٹی کے وفد کے مطابق کاروبار کے ذریعے رعایت / چھوٹ دی جاسکتی ہے۔

5. زرعی فنانسنگ

(i)	5 Mln روپے تک	-/2,500 روپے
(ii)	5-10 Mln روپے	-/5,000 روپے
(iii)	10-25 Mln روپے	-/12,500 روپے
(iv)	25-50 Mln روپے	-/25,000 روپے
(v)	25 Mln + روپے	-/37,500 روپے

فیصل اسلامک پرپورٹی بینکاری

اہلیت:

مندرجہ ذیل گروڈ کے مطابق سہ ماہی میں اوسط رقم برقرار رکھنے والے تمام انفرادی کسٹمرز ذیل میں دی گئی بلامعاوضہ خدمات کے اہل ہو جائیں گے۔

ڈپازٹ کی حد (پاک روپے یا مساوی بیرونی کرنسی)	اکاؤنٹ کی قسم
۳ ملین روپے	چیکنگ اکاؤنٹس
۵ ملین روپے	ٹرم ڈپازٹ

۱۔ بینکاری سہولیات

- ☆ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس
- ☆ بینک سرٹیفکیٹ
- ☆ ڈیبٹ / کریڈٹ ایڈوانسز
- ☆ چیک بک
- ☆ ڈیمانڈ ڈرافٹس / بے آرڈرز کا اجرا
- ☆ اسٹاپ پیمنٹ (چیکس کی ادائیگی کو روک دینا)
- ☆ ریٹرن چیکس / ڈرافٹس (ڈران دوسرے بینک پر)
- ☆ بے آرڈرز کی تینخ / انکیشمنٹ (وصولی)
- ☆ غیر ملکی کرنسی (FCY) ٹیلی گرافک ٹرانسفر
- ☆ کم سے کم ماہانہ بیلنس کے چارجز
- ☆ جاری ہدایات کی فیس
- ☆ ادا شدہ چیکس کی نقول (30 دن کے اندر)
- ☆ سیم ڈے کلیئرنگ (صبح سے شام تک کی کلیئرنگ)
- ☆ آن لائن بینکاری سہولیات
- ☆ ای - اسٹیٹمنٹس

۲۔ فیصل اسلامک آٹو فنانسنگ

50% پروسیسنگ فیس

۳۔ فیصل اسلامک پلاٹینم ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ

وہ انفرادی کسٹمرز جو مذکورہ بالا گروڈ کے مطابق اپنا سہ ماہی اوسط بیلنس برقرار رکھیں گے انہیں فیصل پلاٹینم ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ اعزازی طور پر فراہم کیا جائے گا

۴۔ فیصل اسلامک ہوم فنانسنگ

50% پروسیسنگ فیس

فیصل اسلامک پرپورٹی بینکاری

۵۔ لاکرز

3 ملین روپے کا سہ ماہی اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر چھوٹے لاکر کی سالانہ رینٹل فیس پر اور 5 ملین روپے کا سہ ماہی اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر درمیانے لاکر کی سالانہ رینٹل فیس پر 50% کی چھوٹ ہے۔ (برانچ میں لاکرز کی دستیابی سے مشروط ہے)

۶۔ فیملی ممبر شپ فیس چار جز

مطلوبہ کم از کم سہ ماہی حد برقرار نہ رکھنے والے فیملی ممبر شپ کے انڈروسر کے لیے فی فیملی ممبر-1000 روپے سہ ماہانہ۔

نوٹ: فیصل اسلامی پرپورٹی بینکنگ کے تمام صارفین جو مذکورہ بالا اہلیت کے معیار کے مطابق مطلوبہ سہ ماہی میں اوسط بیلنس برقرار نہیں رکھ پائے وہ چار جز کے شیڈول کے مطابق بینک سروس چار جز کے ذمہ دار ہوں گے۔ مزید برآں، مذکورہ صارفین سے چار جز کے شیڈول کے مطابق فیصل اسلامک پلائنیم ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے لیے بھی چارج کیا جائے گا۔

جزل-عمومی

(I) یہ ٹیرف چھ ماہ کے لئے نافذ العمل ہے جس کی ابتداء کے یکم جولائی 2023 سے 31 دسمبر 2023 تک ہے۔

(ii) فیصل اسلامک کرنٹ، سیونگ اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں گزشتہ ماہ کے اوسطاً ماہانہ بیلنس -/50,000 روپے یا اس سے زائد رقم مقامی کرنسی میں رکھنے والے کسٹمرز مستحق ہونگے:

a. مفت چیک بکس۔

b. مفت پے آرڈرز

c. اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کی مفت نقل (Duplicate)

(iii) وصولی کے ایجنٹوں کے اصل چار جز وصول کئے جائینگے۔

(iv) تمام حکومتی ٹیکسز / اسٹامپ ڈیوٹیز اور کوریسیو نڈ بینک پے چار جز (اگر ہوں) کسٹمرز کے ذمہ ہیں اور بینک چار جز کے علاوہ وصول کئے جائینگے۔

(v) کسٹمر سے اصل قانونی چار جز لئے جائینگے اور ٹرانزیکشنز کے لئے بینک چار جز کے ساتھ ملا کر وصول کئے جائینگے۔

(vi) تمام آؤٹ آف پاکٹ اخراجات جیسے سوکفٹ / کوریئر / فیکس وغیرہ بینک کے مروجہ چار جز کے ساتھ ملا کر وصول کئے جائینگے۔

(vii) مختلف پروڈکٹس اور خدمات پر پرائسنگ / ڈسکاؤنٹ کے ولیم میں اضافہ انتظامیہ کی رضامندی سے مشروط ہے۔

(viii) غیر ملکی کرنسی میں مقررہ چار جز کو مساوی روپوں میں وصول کیا جاسکے گا۔

(ix) بینک وقتاً فوقتاً پروڈکٹ کو متعارف کروا سکتا ہے جس میں موجودہ فیس اور چار جز پر رعایت / چھوٹ ہو سکتی ہے۔

(x) تازہ پیشکشوں کے لئے براہ کرم اپنے متعلقہ منیجر یا کال سینٹر سے رابطہ کریں۔

(xi) مندرجہ بالا تمام اقسام کے ذکر کردہ چار جز میں استثناء، کسٹمر کے ساتھ معاہدہ اور انتظامیہ کی منظوری کے مطابق ہوگا۔

(xii) زکوٰۃ اور ٹیکس سرٹیفیکیشن کے لیے کوئی چار جز کی کوئی نہیں کی جائے گی۔

(xiii) محدود بینکنگ سہولیات کے لیے منتخب شاخیں ہفتہ کو کھولی جاتی ہیں۔

(xiii) جب ریگولیٹر کی طرف سے ہدایت دی جائے گی تو چار جز کی چھوٹ (اگر کوئی ہے) لاگو ہوگی۔

For details and to open an account, please visit:
faysalbank.com/en/islamic | 021 111 06 06 06

 [faysalislami](#)  [faysalbankltd](#)  [faysalbanklimited](#)